


ع

زمستان ۱۳۶۴

حائف

روایتی ایرانی فہرستی جمہوری اسلامی ایران - اسلام آباد

- ۲۳ میاسہ و مقداد
- ۲۴ یادداشتہائی برہامش فہرست مشترک پاکستان
- ۲۵ اشعار
- ۲۶ کشمیر میں فارسی ادب۔ ایک جائزہ
- ۲۷ ذائقہ دھلوی۔ کلیات کا تعارف اور انتخاب کلام
- ۲۸ فارسی زبان اور متعرّبین
- ۲۹ غلام حسن شہید ملتانی کا فارسی کلام
- ۳۰ رضا لاثریری رام پور میں میر علی الکاتب السلطانی کی تحریریں
- ۳۱ کتابوں پر نقد و نظر



قابل توجه نویسنده‌گان و خوانندگان **اللش**

- ۱۳ مجله سه ماهه، «دانش» مشتمل بر مقالاتی بیزamon زبان و ادب فارسی و اشتراکات تاریخی و فرهنگی ایران و شبه قاره می‌باشد.
- ۱۴ بخشی از مجله به مقالات فارسی و بعضی دیگر به مقالات اردو اختصاص می‌باید.
- ۱۵ مقالات ارسالی جمیعت «دانش» نباید قبلاً منتشر شده باشند.
- ۱۶ به نویسنده‌گانی که مقاله آنها جمیعت درج در «دانش» انتخاب شود. حق التحریر مناسب پرداخت می‌شود. «دانش» می‌تواند جمیعت همکاران خود در خارج پاکستان کتب و مجلات مورد نیاز را تهییه و ارسال نماید.
- ۱۷ مقاله‌ها باید تائب شده باشند. پا ورقی‌ها و توضیحات و فهرست منابع در پایان مقاله نوشته شود.
- ۱۸ «دانش» کتابهایی را در زمینه‌های زبان و ادب فارسی و فرهنگ اسلامی معرفی می‌کند. جمیعت معرفی کتاب در نسخه از آن به دفتر «دانش» ارسال شود.
- ۱۹ هر گونه ییشهاد و راهنمایی خود را به آدرس ذیل جمیعت «دانش» ارسال فرمائید.

مدیر مسئول **اللش**

رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
خانه ۲۵ - کوچه ۲۷ - ایف ۶ - اسلام آباد - پاکستان

حاجیان

۴

زمستان ۱۳۶۴ - ۱۴۰۶
دوره ۱ - شماره ۴

فصلنامه رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - اسلام آباد

میرزا الدین محمد حسین اردستانی - میر میران

استاد دستگاه عدالت و قطب شاه (۱۴۰۵-۱۳۸۲)

مدیر مستول : رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

مدیر مجله : سید عارف نوشاهی


مشاور افتخاری : دکتر سید علی رضا نقوی

روزنیسیون

و تهییه کتابخانه و کتابخانه ملی ایران

و انتشارات مرکز تحقیقات اسلامی (الوزارت اسلامی) پژوهش و کتابخانه ملی ایران

تشریفات



پیشگفتاری

و علمیه مقاله

بسم الله الرحمن الرحيم

فهرست مطالب

بخش فارسی

میاسہ و مقداد

- معزالدین محمد حسینی اردستانی
بااهتمام بھاء الدین وکیلی مولانا
یادداشتہائی برہامش فہرست مشترک پاکستان ۶۹
- نجیب مایل ہروی ۹۹
اشعار
- بخش اردو
- کشمیر میں فارسی ادب - ایک جائزہ ۱۰۳
- ڈاکٹر شمس الدین احمد
فائز دہلوی - کلیات کا تعارف اور انتخاب کلام ۱۳۳
- جمیل احمد رضوی
فارسی زبان اور متعرّبین ۱۶۵
- وارث سرہندی
غلام حسن شہید ملتانی کا فارسی کلام ۱۸۱
- روبینہ ترین
رضا لاثریری رام پور میں ۲۰۷
- میر علی الکاتب السلطانی کی تحریریں
محمد حسین شفا
- عارف نوشانی
کتابوں پر نقد و نظر ۲۱۷

نگارنده ناسان داشتند شیخ معزالدین محمد حسین اردستانی
مشهور به میر میران و فرزند امیر مشهور الدین محمد بن باشد که از
ایران به هند آمده است - و در دستگاه عربان طبله (۱۷۰-۸۲)
م) جایگاهی را فراست - **لیتفکشی** المیق و خود را هم از
بادشاه به سال ۱۰۵۸ هـ

میاسه و مقداد

جیوه لکه ایستاده (در باغه تپه) و بکشید این لیسه کو روی خود
نمیان .. ایستاده (در باغه تپه) و بکشید این لیسه کو روی خود
نکشید نداشتیا میغول (۱۰۴۳-۸۲) میلادی و خوش لفظ نکشید
نکشید نداشت .. تسا نیازی نداشت اما بعزم فیض و میسر

نگاشته

معزالدین محمد حسینی اردستانی «میر میران»

وابسته دستگاه عبدالله قطب شاه (۱۰۳۵-۸۲ هـ)

برمبانی تک نسخه خطی کتابخانه گنج بخش - اسلام آباد

۱۰۷۶۱ بشماره

رونویسی

بهاء الدین وکیلی پولیزانی

وابسته مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان - اسلام آباد

پیشگفتار

در میان کتاب های تازه خریداری شده ، مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان « داستانی بدست آمد که فهرست نگار مرکز تحقیقات فارسی « میاسه و مقداد » نامیده است . این داستان که ترجمه و پرورده یکی از دانشمندان ایران است . تاکنون در هیچیک از تذکره ها و فهرست ها نامی از آن نیامده است .

بسیار جای تأسف است که این نسخه نویافته و منحصر هنگامی به مرکز تحقیقات فارسی رسید که موریانه تمام کناره های آنرا خورد بود . و متن آن نیز چنان مشبک شده بود که قابل عکس برداری نبود . از این رو بندۀ آن را رونویس کردم تا از نابودی آن جلوگیری شود . لازم به توضیح است که با تمام فرسودگی نسخه اصل آنچه در این اوراق می آید همان نسخه اصل است و تنها دو صفحه آخر نسخه که بسیار خرد شده و نیمی از کلمات آن ریخته بود ، مطالب آن در چند سطر و به مشکل خیلی مختصر نقل گردید و در مواد معدود دیگری هم که کلماتی خوانا نبود با استفاده از قراین تصحیح شد .

نسخه کتابخانه گنج بخش بشماره ۱۰۷۶۱ به نسخ خوش کتابت شده است البته بی نام کاتب و بی تاریخ (به نظر می رسد که کتابت آن در سده یازدهم و شاید بروزگار نگارنده انجام گرفته) . این نسخه در ۵۶ صفحه است و هر صفحه ۲۰ سطر دارد .

★ ★ *

نگارنده داستان دانشمند شیعی معزالدین محمد حسینی اردستانی مشهور به میر میران ، فرزند امیر ظهیر الدین محمد می باشد . که از ایران به هند آمده است . و در دستگاه عبدالله قطبشاه (۱۰۳۵ - ۸۲ ه) جایگاهی یافته است . کتاب „ کاشف الحق ” خود را بنام این پادشاه به سال ۱۰۵۸ ه ۱۶۴۸ م ساخته است .

این کتاب در منابع کتابشناسی به نام های چندی آمده است . از آن میان „ امامت ” (ذریعه ۲ : ۳۲۲) و „ کشف الحق ” (ذریعه ۱۸ : ۳۲) و چند نام دیگر که در (نسخه ها ۲ : ۹۷۸ و مشترک ۲ : ۱۱۶) به آن اشاره شده است . و نام نگارنده آنگاه سرزبان ها افتد ، که دریافتہ شد که در کتاب پیشگفتہ او دست برده اند و بنام „ حدیقة الشیعه ” بنام احمد بن محمد اردبیلی ساخته اند .

برای „ حدیقة الشیعه ” ر . ک . ذریعه ۶ : ۳۸۵ - ۳۸۶ - مشار ۲ : ۷۳۴ که نشانی نه چاپ آنرا داده است - ریحانه ۵ : ۳۶۶ تا ۳۷۰ زندگینامه اردبیلی و نام ده اثر ادبی او ، از آن میان „ حدیقة الشیعه ” که می گوید که در نسبت آن به اردبیلی جای تردید نیست (نسخه ها ۲ : ۹۳۴ - مشترک ۲ : ۱۰۸۶) .

برای اردستانی ر . ک : ذریعه ۲ : ۳۲۲ ، „ امامت ” بدون نام نگارنده ، ولی همان کتاب „ کاشف الحق ” اردستانی است ، همانجا ۶ : ۳۸۵ ، همانجا ۷ : ۲۳۶ ، همانجا ۱۸ : ۲۳۶ ، همانجا ۱۸ : ۳۲ .. کشف الحق ” - برگل ۱ : ۱۸۱ ش ۳۲۵۶ ، همانجا ۱۸ : ۲۳۶ .. کشف الحق ” -

مشترک ۲ : (۱۰۸۶)

یکی از اخوان که حقوق صحنه مشترک و در راه دوستی مشترک بود

منابع پیشگفتار

- ١ - ادبیات فارسی بر مبنای تأثیر استوری . ترجمه یو - آ - برگل - ترجمان یحیی آرین پور و سیروس ایزدی و کریم کشاورز . تحریر احمد منزوی ، مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی تهران ۱۳۶۲ - جلد اول و دوم .
- ٢ - الذریعه الى تصانیف الشیعه تأثیر محمد محسن الشهیر بالشیخ آغا بزرگ الطهرانی الجز الثاني طبع نجف ۱۳۵۵ هـ ، الجز السادس طبع تهران ۱۳۶۵ هـ ، الجز السابع عشر طبع تهران ۱۳۸۷ هـ . الجز الثامن عشر طبع تهران ۱۳۸۷ هـ .
- ٣ - ریحانة الادب تأثیر میرزا محمد علی مدرس ، تبریز ۱۳۷۳ هـ ، جلد پنجم .
- ٤ - فهرست مشترک نسخه های خطی فارسی پاکستان تأثیر احمد منزوی ، مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان اسلام آباد ، ۱۴۰۵ هـ جلد دوم .
- ٥ - فهرست نسخه های خطی فارسی تأثیر احمد منزوی ، سازمان همکاری عمران منطقه نی ، مؤسسه فرهنگی منطقه نی ، تهران ، جلد دوم .

میاسه و مقداد
 بنام خدای کارساز
 بحسب الله الرحمن الرحيم و به نعمت
 الحمد لله رب العالمين ، حمد الشاكرين والصلوة والسلام على
 اشرف الانبياء والمرسلين محمد خاتم النبيين وعترته الاطيبين خصوصاً
 سيد الوصيين امير المؤمنين ، على نفس رسول رب العالمين .
 وبعد اقل الخلقة بل الاشيء في الحقيقة المحتاج الى رحمة
 الرحمنى معزال الدين الارdistانى . مصدع برادران گشته و معروض مى
 دارد که روزی در خدمت سید فاضل وسند کامل وحید عصر و فرید
 دهر الذى موصوف بمعلا بدان يتصرف به النفوس الكاملة الانسانية
 الورع النهى والالمعنی الزکی سیدنا و مولانا السيد حسين بن السيد
 على المدنی الشدقی رفع الله صحیفة قدرة بقدرتہ الكامله ، وفتح عليه
 ابواب فیضه بمفتاح فضله الشامله . وفقه بالفوز والفلاح به وجوده
 كما وفقه الله في رکوعه وسجوده .

هر سخنی و از هر باب حرفى می گذشت فرمودند : که با جمعی از
 اخوان صفا و خلان وفا ، روزی از روزها حکایت مسلمان شدن مقرب
 درگاه الله ، اسخنی و اشجع صحابه رسول الله (ص) (۲) شیر بیشه
 سعادتمندی مقداد بن اسود کندی - که از کبار صحابة رسول واز
 شیعیان وموالیان زوج بتول است - درمیان داشتندو آن قصه عجیبه و
 حکایت غریبیه را به زبان عربی در رشته تقریر و تحریر آورده بودند ،
 خوانده می شد .
 یکی از اخوان که حقوق صحبت پیشتر و در راه دوستی پیشتر بود

التماس نمود که اگر به جهت تسهیل تفہیم این قصه را کسی ترجمه
 نماید منتی باشد ازو برجان و به موجب الارواح جنود مجده فما
 تعارف منها ائتلف وما تناکر منها اختلف . چون با آن برادران ائتلافی
 حاصل آمده بود ، التماس شان به قبول تلقی یافت که از یکی از
 دوستان که قادر برآن باشد التماس نماید که از او این شغل به فعل آید
 . اکنون صدیقی به از تو که از او این کار آید نمی بینم . اگر از تو این
 برادری بجا آید و خاطر مرا ازین تشویش برهانی در حقیقت دوستی
 باری از دوش برادری برداشته باشی فقیر بار قلت بضاعت وعدم
 استطاعت به موجب المأمور معدور ، شروع نمود . امید که توفیق اتمام
 پسند خاطر آن خلاصه اولاد رسول وزبده احفاد پنول بوده ، در نظر
 کیمیا اثر ایشان محلی از قبول بباید . والا ، دریغ از راه دور و رنج
 بسیار ، وهانا اشرع فيه .
 ناقلان احادیث نبوی و مورخان تاریخ مصطفی بی اسناید
 صحیحه و طرق مختلفه نقل نموده اند که چون حضرت خاتم النبیین از
 جانب رب العالمین به رسالت جبرئیل امین مأمور شدند که از مکه
 معظمه مهاجرت نموده ، زمین یثرب را محل اقامت سازند . وسرور
 کائنات علیه افضل التسلیمات از مکه هجرت نمود ، به قدم بهجت
 لزوم مدینه را منور ساختند . ومهاجر وانصار که اطاعت و انقياد برミان
 جان بسته منتظر (۲) امر و نهی آن حضرت شدند . واین خبر در آفاق
 منتشر شد . فرقه ای از طایفه قريش جمعیتی نموده به مشوره مشغول
 شدند که از یتیم ابی طالب غافل شدیم ، تا کارش بجایی رسید که
 اهل یثرب همگی منقاد او شدند . وخلقی کثیر بر او گرد آمده عنقریب
 دیار ما را خراب و مال ما غارت خواهند نمود ، درین باب فکری
 صواب باید کرد .

بعد از گفتگوی بسیار به این قرار دادند، که به خدمت ابوجهل و ابوسفیان رفته به صوابدید ایشان فکری کنند. ریش درهم باfte در مجمعی که عظمای مکه با آن دو رئیس به همین مشوره مشغول بودند، آمده بفریاد آمدند که از محمد بن عبدالله غافل شدید تا به مدینه رفت و اکنون اعوان یترب را انصار و مطیعان مکه را مهاجر نام نهاده و روز بروز عدت و شوکتش بیشتر میشود و در فکر انتقام است و شما در خواب غفلتید ایشان به یک زبان گفتند که ما هم به همین مشورت مشغولیم و شب و روز در این اندیشه و بیم هستیم و بوده ایم. منتظر رأی شماست و تدبیر ما پس هر یکی رأی و هر شخصی فکری می کردند، تا آنکه ابوسفیان گفت:

با اطاعت اهل یترب و انقیاد بنی هاشم، شما را قتل و اسر محمد دست نمی دهد. وحال آنکه دو خویش چون حمزه و علی که عم و عمزاده اند در امداد او بجان می کوشند و هر روز به جهت قوت و شوکت او زرهی از تدبیر می پوشند. این کار جز به مددگاری یکی از اکابر عرب که اورا قوتی و قدرتی و عشیره و قبیله ای باشد، از پیش نتوان برد. و این ره جز به همراهی چنین دلیلی نتوان برد و امروز هر چند تأمل می نمایم در تمام عرب به شجاعت و قدرت جابر بن ضحاک کسی نیست که او قبیله ای چون کنده و دختری چون میاسه دارد که آن قبیله در کثرت و عدت بی مثل اند^(۴). و این دختر در جمال بی مثل است هیچ به از آن نیست که با جوانان پستندیده و پیران روزگار دیده به خدمت او رویم. و میاسه را به جهت یکی از اکابر قریش خطبه نمائیم. و قبیله کنده را با خود یارسازیم، و به شوکت تمام و عدت لاملا کلام روانه یترب شویم. و این کار از پیش بریم و بیتی چند انشاد نمود که ترجمه اش اینست:

میاسه به حسن در جهان بی همتاست
 گر فخر کند برهمه ابطال رواست
 چون آتش حرب بر فروزنده یلان
 تیغش بر فرق دشمن انگشت نماست
 گر خطبه او کند شجاعان قریش
 و ز همسریش فخر نمایند بجاست
 گر مال طلب کند سروممال از وی
 ور اصل و نسب بخواهد ، آن نیز سزاست
 خوش حال کسی که خان و مانش از وی
 روز و شب و صبح و شام بانور وضیاست
 سادات قریش زودتر بستایید
 تا دریاید دولتی ، کان ز خدادست
 بعد از آن برخاستند و یکدل و یک جهت شده کارسازی رفتن
 نموده منادی کردند ، که هر کرا رغبتی به دختری چنین و دولتی چنان
 هست باید که قدم پیش نمهد . و جمعی کثیری چون ابوجهل بن هشام
 و پسر او عکرم و عبد الله بن الزهری و خالد بن ولید المخزومی و ولید
 بن عتبه بن ربیعه و بسیاری از اکابر و اهالی مکه معظمه با زیب و زینت
 ، کمرهای زرین برمیان ، و اسیان باد رفتار در زیر ران ، مقدم شان
 ابوسفیان شعری چند که یک بیتش اینست :

بنام لات و هبل سر کنید این ره را
 مگر بود که بینیم روی آن مه را
 خوانده راهی شده . شب و روز به یاد روی میاسه و یاری پدر و
 مددگاری قومش سیر می نمودند و راه می سپردند . تا به حوالی آن
 قبیله رسیدند و چون خبر ایشان به جابر رسید ، به غوغای تمام

استقبال نموده ، برسم عرب ترحیب و ترهیب بجای آورده^(۵) ، قوم را در منازل نیکو فرود آورده ، گوسفندان کشته و شتران نحر نموده ، سه روز ضیافتی بود ، و طعام و شرابی صرف نمودند که در عرب مثل آن کسی را بیاد نبود . و صبح روز چارم جابر آمده بر قوم سلام کرد و گفت

ای سادات بطحا و یشرب و مشاهیر مشرق و مغرب می خواهم مطلب شما را بدانم . و مقصود شما را بفهمم ، که غرض از طی مسافت چیست ؟ و مطلوب ازین مشقت دیدن کیست ؟ تا اگر تو انم در انجاز آن سعی نمایم و اگر عاجز باشم در ادای عذر آن گرایم .

از میان قوم ابوسفیان به تکلم در آمده گفت :

یا جابر بر هیچ کس مخفی نیست و تو نیز می دانی که این قوم برگزیده ملک جلیل و اولاد ابراهیم خلیل اند . سادات مکه و حرم و صاحب صفا و زمزم . ابطال یشرب و بطحا ، مجاوران خانه خدا ، اکابر عرب و عجم را آرزوی نسبت است به اینها . مع ذلک اینان این راه را طی نموده به امید نسبت با تو . و مهمنانی این حی آمده اند به خطبه کریمه تو ازین جمع سادات که منبع سعادات اند ، یکی را به فرزندی خود قبول کن و شرف دامادی خود ارزانی دار ، تاما را شرف بیفزاید و ترا فضل . و اینان را در مال مضایقه نیست . و در حسب و نسب کمی نه . و بیتی چند انشاد نمود که ترجمه اش اینست :

بر اهل جهان روشن است اینکه نیست .
جوانان و پیران ما را نظیر

دگر ملک ما هست خیر البلاد
 عزیزش نموده خدای قدیر
 در آن خانه او، که واجب شده
 به خلق خدا از صغیر و کبیر
 که آیند و گردند برگردان
 چه دور و چه نزدیک و برنای و پیر
 بود جد این قوم هاشم که او
 چو خورشید بد در سخاوت شهر
 همی بود روزی خورش و حش و طیر
 چو محکوم حکمش امیر و وزیر^(۱)
 چون جابر کلام او را شنید ساعتی سر در پیش افکند و بعد از آن
 سر برآورده گفت :
 ای اخوان صفا و ای سکان مکه و بطحاء ، مخفی نماند که باقی
 نمانده از اکابر و اهالی عرب کسی که رسولش به نزد من نیامده باشد
 به طلب آنچه شما طالب آنید و نخواسته باشند آنچه شما خواهان آنید.
 ولیکن هر که آمد من به عرض صاحب معامله (یعنی دخترم) رسانده
 ام ، که (خواستگار) کیست و از کجا آمده و کارش چیست ؟ و او هر
 بار در جواب من گفته که :
 یا بتا و حق الهی ما یملک عنانی الامن یردستانی . یعنی (ای پدر
) به حق آن خداتیکه مرا آفریده که عنان مرا آن تواند گرفت که نیزه
 مرا رد تواند کرد . این بار نیز بروم و نقیر و قطمیر احوال شمارا برو
 عرض کنم . و مقام و منزلت قوم را برو ظاهر سازم و آنچه دیده ام
 وشنیده ام بگویم و بشنوانم .
 پس در ساعت متوجه حرم محترم شده ، به حجرة میاسه رفت ، دید

که به سفید کردن زرهی مشغول است که گویا داؤد نبی علیه السلام
رشته آنرا تافته و چشم هایش را چون چشمها ملخ بهم بافته اند.
چون پدر را دید برخاست وسلام کرد و جواب شنید، و بعد از
ساعتنی جابر گفت:

ای جان پدر؛ بدانکه قدم به خانه ما ننهاده است درین مدت کسی
از این جماعت عزیزتر و بزرگتر. این قوم از قبایل قریشند که سادات
مکه اند و اکابر بطحاء، بهترین عرب و عجم اند. در شجاعت و
سخاوت ووفا. ساکنان بیت و حرم اند، و میان صفا و زمزم. رغبت
به تو نموده اند و به خواستگاری تو آمده، جمعی کثیرند همه جوانان
با اصل و نسب و بزرگی و حسب. مرا اعلام کن که ازین ها به کدام
یک رغبت می کنی و از ایشان که را همسر خود می پستدی؟

پس میاسه ساعتنی سر در پیش افکنده سر بر آورده و گفت:
ای پدر بزرگوار؛ بارها (۷) به عرض شما رسانده ام، که مرا
رغبت به مال و منال دنیا نیست. همسری من کسی تواند کرد که از من
شجاع تر و دلیر تر باشد آنها که این اراده دارند. باید قدم در میدان
نهند، هر کدام مرا در طعن و ضرب زبون خود سازد، مرا کفوی باشد
کریم و زوج بی مثل و سهیم، و آنکه زبون من شود، خایب و خاسر،
راه خود را در پیش گیرد. و چنانچه آمده بود. و چه خیر باشد
در مردی که مغلوب زنی شود و حال آنکه زنان به عجز و بی دست و
پائی موسوم و مشهورند، و به ضعف و زبونی در زبانها مذکور و بیش
چند انشاد نمود که ترجمه اش اینست:

ای پدر با قریش باید گفت
کای جوانان مکه و بطحاء

گر شما راست میل خویشی من
 بهر میاسه جهان آرا اخوت
 مهر او مال و ملک دنیا نیست
 میل دنیا ندارد او اصلاً
 هر که غالب شود برو در حرب
 سازد او را زبون بروز وغا
 داندش کفو خویش و فخر کند
 تبیش . لفه نیس . به زنا شویش بروز جزا
 وانکه مغلوب او شود در جنگ
 دامنش را کند ز دست رها
 نکند سوی او نظر هرگز
 نکند میل صحبتش قطعاً

پس چون جابر گفتگوی او را شنید از پیش او بیرون آمده قوم را
 از جواب او خبر گردانید . و شعرش را بر ایشان خواند . و همه بیک
 زبان گفتند والله که انصاف داده است ، در آنچه فرموده . اینک ما او
 در میدان حرب و مقابله * طعن و ضرب .

پس هر یک غلام و خادم را امر نمودند که اسباب حرب را حاضر
 نموده ، اسبان را زین نهاده ، و زره ها را پوشیدند و شمشیر ها را
 حمایل کردند ، و نیزه های خطی را بدست گرفتند و عزم میدان (۸) و
 آهنگ طعن و ضرب و نیزه وری و حرب فرمودند .

وازین جانب جابر با اصحاب خود ، در طرف دیگر صف کشیدند .
 وبعد از لحظه ای میاسه چون ماه تمام به هزار تمکین و وقار بر اسبی

* در اصل : مقالله .

کوه پیکر جوال نام سوار، زرهی تنگ حلقه سابری در بر خود، عادی
بر سر همچو عقاب تیز پر، روی خود را به طریق عرب بسته گوئی
بر کوهی نشسته به میدان آمد. اسب را جولان داد بهر طرف نگاهی کرد
سه بیت به این مضمون بر زبان راند.

نشنود گوش من بگاه نبرد
گفته ناصحان و پند پدر
دشمن ار طعن و ضرب من بیند
جزم داند که خون اوست هدر
ور بود دوست روز و شب نکند
آرزو جز و صالح از داور
راوی گوید که در قبیله کنده مردی بود مقداد نام، صاحب حسب
و نسب. و در طفویلت پدر از سر او رفتہ بود. و خاتون او گله های
اسب و شتر داشت. هر روز او را به صحراء می فرستاد به جهت
چرانیدن خیل. و (او) در صحراء هر اسپی را که بهتر می بود سوار می
شد و فنون سواری از سواران یاد می گرفت. و اقسام طعن و ضرب و
جدال و حرب می آموخت تا آنکه مردی شد در فن شجاعت تمام و سر
آمد شجاعان ایام.

درین روز چون دید که اکابر حی سوار شده روبه میدان نهادند،
به نزد مادرش که تمیمه نام داشت رفتہ گفت: یا اماه! چه واقع شده
که سادات و اکابر حی را می بینم که شمشیرها حمایل کرده بر اسبان
سوار شده اند. و می تازند و نه دشمنی بر سر ایشان آمده و نه لشکری
برا ایشان تاختن آورده، بیتی چند به این مضمون خواند:
چه شد قوم مرا ای جان مادر
که می بینم همه گشتند یک دل

همه پوشیده جوشن های عالی
 همه شمشیر ها کرده حمایل
 همه در زیر ران (۹) اسبان تازی
 که نه دارا چنان دید و نه طغل
 همه با نیزه خطی هم آغوش
 همه بر قصد دشمن پای در گل
 نه بر سر تاختن آورده دشمن
 نه نیز افتاده کاری صعب و مشکل
 پس مادرش گفت : که جان مادر ؟ بدانکه از جانب مکنه معظمه
 جمعی از سادات قریش به قصد دیدن جابر و خطبه کردن دختر او میاسه
 به این حی تشریف آورده اند . بعد از خواستگاری ، دختر گفته که
 با خود شرط کرده ام و با خدای خود عهد نموده که شوهر نکنم ، الا
 کسی را که در میدان حرب بر من غالب آید ، و در طعن و ضرب بر من
 زیادتی کند ، و در میدان فرسان و شجاعان مرا از اسب بزیر آرد ، یا مرا
 دست به بندد . و این قوم هم به عهد و شرط او راضی شده اند . و به
 میدان رفته ، و این جمع را که دیدی به تفرج می روند تا به بینند که غلبه
 کرا خواهد بود .

پس مقداد گفت : ای مادر ! من هم دوست می دارم که در آن
 میان و از تفرج کنان میدان باشم .
 مادرش گفت : ای پسر خاموش باش : که تو مرد این میدان نیستی
 یکی آنکه طفلی و بی پدر ، و دیگر آنکه ازین کار بی خبری . نه زره
 داری نه شمشیر ، نه کمان داری نه تیر ، نه سلاح و اسب سواری ، نه
 لباس و آلت کار زاری . و این بیت ها بر پسر خواند :

شود چون صبح هر چیزی فقیران را بود دشمن
 زمین در های خود را بر رخ درویش می بندد
 یکی گریاندش و آن دیگری بروی همی خندد و دیگر آنکه هرچه باشد
 و هر که باشد فقیر را دشمن دارد حتی آنکه :
 بیند چو فقیر را سگ رهگذری
 عف عف کند و نیش... گرداند
 ورزانکه ز دور مالداری بیند
 گرددش ذلیل و دم همی جنباند
 خلقی همه دشمنند درویشان را
 نی علت و نی سبب کسی می داند
 پس مقداد همان به شعر جواب مادر داده گفت :
 ای مادر من بدانکه موسای (۱۰) کلیم
 با آن همه قرب حق شبانی می کرد
 معدورم دار زانکه پیغمبر حق
 از بهر شعیب بز چرانی می کرد
 بدنسیست مرا اگر بگویند قریش
 دیدی که فلان شغل فلانی می کرد
 من مقدام چون شیر در پیشه جنگ
 خوش آنکه به جنگ کامرانی می کرد
 و به مادر الحاح کرد و جزع نمود که التماس من آنست که به منزل
 برادرت روی ، و از جهت من زرهی نیکو و اسبی آزموده جنگ دیده
 عاریت نمانی . و چون به دعای تو بسلامت برگردم . اسب و زره را به
 او واپس دهی .
 مادر چون جزع او را بدید ، متوجه خانه برادر شد . و برادرش را

در خانه ندید . برزنش سلام کرده اوجواب داده گفت : ای مادر مقداد حاجتی داری ؟

گفت بله ، مقداد مرا به خدمت خالش فرستاد که ازو اسبی و زرهی اعارة نمایم . چون دید که جوانان قبیله به تفرج می روند هوس نمود که با ایشان باشد . و چون برگردید اسب و زره را به خال اعاده نماید .

زن خالش گفت : اینک من اسب و زره ای از برای مقداد بفرستم و ازو واپس نخواهم گرفت ، هرگز .

و فی الفور برجسته یکدست سلاح از شمشیر و نیزه و سپر و زره از خیمه برآورده ، ساتس را امر نمود تا اسب را زین کرد و مهیا نمود . ولیکن این اسب ، اسب پدرش بود . مشهور آفاق . هیچ اسبی برویشی نگرفته ، چون پدرش فوت شد ، یال و دم اسب را درماتم پدر بریده بود . گفت ای مادر ؛ این اسب بی مثل و بی عیب بوده و اکنون معیوب شد . اگر مقداد را پسند افتد هبه ای است از من به او . پس مادر مقداد اسب و سلاح را برداشته به نزد پسر آمد . و چون مقداد اسب را به آن حال دید بگریست . و این چند بیت انشاد نمود :

به عمر من که مرا عمر خوش نمی گذرد

زمانه بهر من آماده کرده است تعب (۱۱)

ز بعد عمری چون خواهدم سوار کند

بریده یال و دم اسبم همی دهد زغضب

مرا زمانه غدار صبر فرماید

صبور باشند آزادگان به وقت کرب

عجب مدارید آن بنده چون شود فردا

زنعن و ضرب به بیتند کارهای عجب

حق خانه که این اسب نیست در خور من

ولیک روز جد است این نه روز طرب *

راوی گوید که این اسب در میان عراق طاق بود . وهیچ اسپی برو
پیشی نمی گرفت ، و باد به گردش نمی رسید . ولیکن چون آن دختر را
پدر فوت شد ، از غصه آنکه غیر پدر را برو سوار نمیتوانست دید
یال و دم اش ** را برید تا معیوب شود و کسی برو سواری نکند .

پس مقداد زره پوشیده ، شمشیر حمایل کرده ، نیزه خطی بدست
گرفته ، روی به میدان نهاد . دید که قریش صف کشیده اند . و از یک
طرف جوانان قبیله صف بسته ، هر دلیری با شجاعی ، و هرجوانی و
هر نیزه داری با نیزه گذاری قرین و کفو باکفو ، در میدان حرب به
طعن و ضرب داد مردی و مردانگی می دهند .

همه را نظر به میاسه است . چه او ترسنده را از ترسانده و
گریزنده را از گریزاننده امتیاز می کرد . و به محض دیدن می شناخت
پس مقداد چون شیری خشم آلود به میان صف آمده برآنها که به
دعوی آمده بودند ، و هر یک خود را کم از عمر و عنتر *** نمی
دانستند . حمله ها نموده همه را خسته و بسته گردانید . به نحو یکه فرار
برقرار اختیار کردند . و به روایتی بیست تن از شجاعان بر دست مقداد
کشته شدند . پس روی به قریش کرده به این مضمون چند بیت انشاد

نحوی :

خبر از من رود امروز به اطراف جهان
که اگر بشنود آن ، شیر هراسان گردد

* باید باشد : روز عیش و طرب .

** دون از بیهلوان دوره جاهلیت

*** دش

ای ابا جهل ؟ سخن بشنو و برگرد و برو
 پیشتر زانکه تنت طعمه مرغان گردد
 آمدی خطبه کنان ، خایب و خاسر رفتی
 ای بسا سود که آخر همه نقصان گردد (۱۲)
 و شجاعتی در آن روز از مقداد به ظهرور آمد که همه دلیران
 انگشت ها به دندان گرفته ، چشم های شان خیره مانده بود . چه پیش
 از آن ازو شجاعتی ندیده بودند و نه شنیده . و چون میاسه آن دلیری و
 مردانگی ازو مشاهده نمود ، در تعجب مانده متفکر شد . و دلش به مهر
 و محبت او مایل گشت و اسبی داشت فحام نام که در عرب نظیر
 نداشت ، در تندی از برق و باد گرومی برد . و کوه را چون دشت به
 یک پامی سپرد ، سوارش از آن اندیشه فارغ که دشمن به گردش تواند
 رسید . و دشمن از آن فکر بری که سوارش را از دور تواند دید .
 چنانکه شاعر در وصفش گفته :
 اسبی و چه اسب اشقری دیو نژاد
 بارفتارش ، باد چه و برق کدام ؟
 مشکین یال و بلند سر تیز نگاه
 صر صر تگ و آهو . روش و کبک خرام
 باریک میان و خوش کفل سیمین ساق
 آدم منش و خوش جلو و نرم لگام
 باریک دم و گرد سُم و سینه فراخ
 اندک خور و بسیار دو و نام فحام
 خلقی به تماشای خرامش مشغول
 میاسه برو سوار چون ماه تمام

از اسب و سوار ، دشت و صحراء روشن
 چون بدر که از شفق برآید گه شام
 میاسه با آن حسن و جمال و غنج و دلال ، برین طور اسبی سوار ،
 از شوق مقداد بی آرام و بی قرار . سر راه را تنگ به عزم جنگ
 بر مقداد گرفته و به آواز بلند با مقداد گفت : ای جوان شجاع و دلیر و
 ای دیوبند شیر گیر :
 میاسه دخت جابریم ، من که شهان
 خواهندش و در خواب نه بینند او را
 دارد سر جنگ با تو بگشا و بیند
 گر زانکه شجاعی ، کمر و بازو را
 مقداد نیز مردانه در برابر شنید :
 مقداد منم چو بچه شیر زبان
 افکنده به خاک پهلوانان جهان
 واقف شو و بشناس مرا غره مشو
 زنهار به اسب و نیزه و تیر و کمان
 (۱۲) پس بریکدیگر حمله نمودند ، وطعن و ضرب در میان این دو دلاور
 بطول انجامیده ، هرچه این می گشاد او می بست . و هرچه او می
 بست این می گشاد . و نظارگیان از هر طرف آفرین می کردند . و زبان
 ها به تحسین می گشادند . تا آنکه بر میاسه کار تنگ شده دانست که
 حریف غالب است . پرده از رخ برداشت . چون مقداد را نظر بر او
 افتاده ، آن حسن و جمال را مشاهده نموده دل از دست داده مضمون
 این چند بیت ادا نمود .
 بدروی دیدم به چشم خود نورانی
 نوری که کند زیادتی بر انوار

نوری که کند ظهور بعد از ظلمت
 نوری که بود چون زیس لیل ، نهار
 از ابر برآمد آفتابی ناگاه
 بامن دیگر نه صبر ماند و نه قرار
 گفتم که ز جنس آدمی یا پری
 کز دیدن تو گشت دلم زار و نزار
 گر آدمی ، آدم نبود ، با این حسن
 ور حور و پری ، ترا به این کار چه کار
 چون میاسه این بیت ها را از او شنید در جوابش گفت :
 ای که کردی در وصال من طبع
 باز نشینندی که من از چیستم
 می شناسانم کنون خود را به تو
 تابدانی کیستی من کیستم
 چون مقداد کلام او را شنید غیرتش به جوش آمده گفت :
 من مقدادم منم که نبود
 زین گفت و شنید هیچ باکم
 در معركه از کسی نترسم
 در جنگ چو شیر خشمناکم
 کوتنه نکنم ز دامنت دست
 گر سعی کنی تو در هلاکم
 باز میاسه را حمیت دامن گیر شده خروش بر آورده نعره زد و
 بر مقداد حمله آورده گفت :
 مردی پیش آ و گفتگو را بگذار
 صولت بنما و آرزو را بگذار

از حیله و مکر ما کسی جان نبرد
 گرچنان خواهی روی به کورا بگذار
 مقداد طعنه اش را رد نموده نعره ای زد که کوه و دشت به لرزه
 آمد . و هر دو را غضب در حرکت آمده ، نیزه بر نیزه هم افکندند . و در
 ابرو ها خم افکندند . و بار دیگر چندین طعن نیزه رد و بدل شد .
 میاسه حیله را تازه کرد و بار دیگر (۱۴) رو به او نمود و به یکبارگی
 مقداد را دل از دست رفته گفت : این دختر به مکر مرا اسیر خواهد
 کرد . پیش از آنکه اسیر شوم فکر خود باید کرد . و نیزه را گردانیده به
 ته نیزه اش زده از ، اسبش در گردانیده ، و برگشت . و این بیت ها
 انشاد نمود :

چو پرسند قوم تو ای ماده شیر
 از آنها که دیدی تو از پردهان
 بگو هیچ دیدی چو من پر دلی
 که در جنگ باشد چو شیر زیان
 مرا دیده ای هیچ باهول و بیم
 مرا هیچ گه دیده باشی جبان
 چه سان دیدی ازمن گریزان شدند
 گروه قریشی ز پیر و جوان
 نمودم تراهم به میدان جنگ
 فنون شجاعت ز تیر و سنان
 فکنند ترا بعد ازین بر زمین
 پیوشاندمت ثوب ذل هوان
 مرا پانزده سال از عمر رفت
 زمن دیدی آنچت نبد در گمان

پس ارزانکه عمرم به پنجه رسد

چه خواهند دیدن زمن مردمان

حمایت کنم آن زمان خانه را

به اسب وستان و به تیغ یمان

بعد از شنیدن این ایيات میاسه با خجالت تمام به منزل پدر رفت.

و بعد از ترحیب و عذر ماضی و سخنان از هر باب و هر جا و گفتگوی

شجاعت مقداد و حرف محبت و وداد، با هزار خجالت و شرمندگی و

زمین بوس و افکندگی عرض نمود که:

ای پدر مهربان چون با این سیه بخت بی خانمان قرار داده بودید

که هر کرا از جوانان بعد از جنگ و کرب پسند نمایم مرا به او عقد

نمایند. وزنگ غم از دل بزدائید. من این جوان را که از قبیله (کنده)

است. و در میدان برمن غلبه کرد و مرا از اسب به زمین آورد انتخاب

نموده، و به زناشوئی او راضی شده ام. چه از او اشجعی ندیدم بلکه

از هیچ کس نشیندم. رضا از تو می خواهم و در هر کاری به تو می پناهم

پدر جوابش داد که:

ساکت باش و به عبث (۱۵) خاطر مرا مخراش که سادات عرب و

اکابر فی رتب از ربیعه و مضر و بزرگان دگر ترا خطبه نمودند. و

خواستگاری کردند، ابا نمودی و راضی نشدی. واکنون به ضعیف تر

کسی از قوم و قبیله خود مقداد بن اسود راضی شده ای که نه مال دارد

، و نه حسب و نه نام دارد و نه نسب.

میاسه جواب داد که ای پدر من مکرر عرض کرده بودم که رغبتیم به مال

دنیا نیست. و نظرم جز به شجاعت و غلبه در روز وغا نی.

پدرش گفت: جوانان شجاع بسیارند که با اصل و نسب یارند. تو

شجاع را کجا دیده ای و وصف شان را کجا شنیده ای؟ گفت: دلم به

او مایل است و عمدہ در این امر دل است . اگر به رضای خود (مرا) به او دهی فهرو المطلوب والا دست او را گرفته از قبیله بیرون می روم . و به نهیب و غارت مشغول می شوم . و این باعث بدنامی و دشمن کامی است .

پدر گفت : ای وای ؟ که مرا رسماً کنی و درمیان مردم به بدی شهرت می نمایی . و دلگیر از خانه برآمده به خدمت قریش آمد . واز ایشان عذر خواهی نمود و گفت : چون من با این دختر عهدهی بسته بودم و شرطی کرده خلاف آن نمی توانم کرد . و او به آن جوان مقداد نام راضی شده ، مرا معدور دارید .

پس قریش خائب و خاسر راه خود را پیش گرفته برگشتند و امید شان به نومیدی بدل شد . و جابر به مجلسی که اکابر و اشراف قبیله جمع بودند آمده اظهار دلگیری نموده با قوم مشورت کرده گفت : چه می گویند در باب مقداد که این دختر با او مایل شده و بمن گران است ، همه بیک زبان گفتند : که ای سید قوم و ای بزرگ قبیله بدانکه در قبیله کنده از پدر مقداد مالدار تری نبود و در حسب و نسب او بزرگتری نه نوائب زمان (۱۵) و طوارق حدثان او را بی مال و منال کرده و گردش زمانه او را به این حال انداخته . مال دنیا در معرض زوال است و نتیجه دنیا و زر و بال . و مقداد سواری بی بدل است و شجاعی درمیان شجعان مثل ، ازو بهتری نخواهی یافت . زنهار که رو ازو نخواهی تافت . اگر او راضی شود تو نیز راضی و شاکر باش . و به رد کردن میاسه خاطرش مخراش که او انتخابی خوب کرده و بهترین قوم را پسند نموده .

و چون جابر از قوم این سخنان شنید قوم را وداع نموده به خانه میاسه را به نوید زنا شوئی مقداد خوشدل ساخت . پرسش

را گفت ، برو به خانه مقداد بن اسود و از من دعا برسان و بگو پدرم
التماس دارد که قدم رنجه نموده ، کلبه مارا به قدموم بهجت لزوم مشرف
سازی . پسر چون به خدمت مقداد آمد دید که لباس حرب را کنده و
جامه از پشم شتر پوشیده گفت : پدرم دعا رسانده والتماس قدموم شما
نموده فرمود سمعاً و طاعة . و چون خواست که راهی شود خال او
همراهی نموده به خدمت جابر آمدند .

بعد از ترحیب و تواضع مقداد گفت : یا جابر غرض از طلبیدن ما
چه بود و باعث بر آمدن ما به خدمت خیر است یا شر ؟ جابر فرمود که
ترا به خوان برای کار خیری طلبیده ام . میاسه را که اکابر عرب خطبه
نمودند ، و به هیچ یک راضی نشد ، چه می گویند که او را به تو تزویج
نمایم ؟ گفت : چه به از آن است اگر به من راضی شوی ، باعث
سرفرازی من باشد . گفت : در مهر او چه می گویند ، و چه چیز داری
که قابل مهر او تواند بود . مقداد گفت : از شما طلبیدن و از من بهم
رسانیدن .

جابر گفت : میاسه بی مثل است و مهرش (۷۷) گران بهاست و به
دست آوردن فوق طاقت شماست . مقداد گفت : هر کرا طاؤس باید
جور هندوستان کشد . هر چند گران باشد در طلب آن بجان خواهم
کوشید . گفت : چار صد شتر سرخ موی چشم سیاه که محمتش از
متاع مصر باشد و صد اسب عرب که مثل آن یافت نشود . بازین
ویراقی که در خور آن اسبان باشد ، با پنجاه رطل عنبر اشهب و پنجاه
جامه از دیبای سرخ و پانصد اوقيه طلای احمر و هزار اوقيه نقره خام ،
و گردن بندی از مروارید غلطان ، و هودج حریر تری که در خور سواری
چون آن هودج نشینی باشد و چون آنچه مذکور شد ، به هم رساندی
ولیمه عظیمه ای می کنم ، که بزرگ و کوچک و دور و نزدیک و سیاه و

سفید و زن و مرد را طلبیده عروسی بکیم که هیچ گوشی نشنیده باشد،
و هیچ چشمی ندیده.

پس از آن میاسه را به تومی سپارم، و ترا به فرزندی قبول می کنم.

مقداد گفت: منت می دارم و با این مهر که گفتی راضی شدم.

خالش از این راضی شدن و قبول کردن تعجب نموده گفت: این

مقدار مهر را از کجا می آری و این چیزها را از کجا بهم می رسانی؟

گمان من اینست که جابر می خواهد ترا از سروها کند و به مثل، «ماهی

که نخواهی دمش گیر» عمل نماید، تا ترا این هوس دامن گیر نشود و

میاسه را ازین معنی در خاطر نگذارد.

مقداد گفت: ای خال بر اسبیم سوار می شوم و شمشیرم را حمایل می

کنم و در طلب آن می کوشم. و امید دارم که محروم نشوم.

و در آن زمان مقرر بود که به دامادی کسی که راضی می شدند.

انگشتی بدهست او می کردند. جابر انگشتی از دست بیرون کرده در

انگشت مقداد کرد و گفت: میاسه را به مهری که مذکور شد بتو

تزویج کرم. بشرط آنکه از امروز تا سه ماه دیگر برسانی. و اگر سه

ماه بگذرد و مهر حاصل (۱۸) نشده باشد به دیگری او را تزویج نمایم.

مقداد شرط را قبول کرده از خدمت جابر مخصوص شده بیرون آمد. و

اسباب سفر مهیا کرده، سلاح پوشیده قدم در راه نهاد.

وجابر بر خیمه ای پشمین زده میاسه را در آن جا داده بود و بر

گرد آن خیمه ای دیگری زده و بر دور هر دو خیمه جمعی را با نه رأس

غلام نیزه گذار و هفت کنیز خدمتگار به جهت حفظ و حراست میاسه

مقرر داشته بود که بیگانه ای نگاه در آن خیمه نتواند کرد. و نظر بر آن

نتواند انداخت. مقداد بر آن خیمه گذشت و مضعون این ایات را

انشاد نمود:

خیمه هائیکه زندن از پی هم
همگی از پی آزار منست

بجز آن خمیه که چون قصر بهشت
گرد آن خانه بگردم که درو
وچون این آواز به گوش میاسه رسید ، شعرش را شنیده بی تابانه
از جابر جست . و در بدیهه گفت :
بروز وصل تو با دوست ، بسته ام عهدی
محبت تو چنان جای کرده در دل من
گر آمدی به تم جان رفته باز آید
چون مقداد این شعر را شنید با چشم گریان و دل بریان گفت :
سلام و شام سلام و درود من برساد
به خانه ای که درو آرزوی جان منست
سلامی و چه سلامی که بی ملالت و غم
پس میاسه باگریه و ناله در جواب مقداد گفت :
سلام خدا بر تو بادا که من
ندارم به غیر از تو یار و حبیب
شب و روز در خواهم از کردگاریه
که بازتر رساند به من عنقریب

کنم صبر تا باز گردي به من
 که خلاق من قادرست و مجیب
 و چون این شعر را شنیده بر گریه صبر نتوانست کرد (۱۹) اشکش بر رو
 دوید و آواز گریه اش بلند شد و می گریست و می گفت :
 بر آنم که سر در بیابان نهم
 که عزم سفر کرده ام ای حبیب
 درین سیر مال فراوان و گنج
 طمع دارم ارزانکه باشد نصیب
 در اطراف عالم دوم شرق و غرب
 به مطلب رسم یا بمیرم غریب
 تو میدانی ای نام بردار شیر
 (که) مقداد چون پا کند در رکیب
 زتیغش همی خون چکد بر زمین
 بدرد دل شیر را ازنهیب
 به بخت آزمایی کنون میروم
 بیابم ظفر ، یا بمانم کنیب
 خدا یا تو حاجات درماندگان
 بر آری که هستی سمعی و مجیب
 و چون (میاسه) این شعر ها را شنید از خیمه بیرون دوید و بی محابا و
 بی تابانه گریه کنار و نالان این بیت ها بر مقداد خواند :
 به سلامت روی و باز آنی
 در دلم آتشی زفرقت تست
 زود باز آزدت خدای به من
 دل و جان هر دو وقف خدمت تست

تو در آنجا غریب (ناشادی ؟)

من چه باشم غرض سلامت تست
 گر ترا سعی بهر مهر من است
 مهر من مهر تو محبت تست
 زود برگرد و فکر مال مکن
 که مرا مال و ملک رجعت تست
 پس یکدیگر را وداع کردند . میاسه گفت : میان ما و تو عهدی
 است که جز به مرگ شکسته نشود . و اینک به دعا و زاری و گریه و
 بی قراری چشم براه و گوش بر آوازم . تاترا خدای به من باز رساند ،
 مقداد گفت : من هم توکل به خدا کرده ، قدم در راه می نهم ، تا بیینم
 که از پرده غیب چه رخ نماید .
 و اسب را گرم کرده منزل به منزل و وادی به وادی طی مراحل و
 قطع پنازل می نمود . تا آنکه بعد از هفته ای سیاهی از دور دید ، به
 جانب آن حرکت کرد . چون نزدیک رسید ، دید چهار صد شتر سرخ
 موی سیاه چشم ، باجل های ابریشمین و چار کس همراهن . جامه
 های فاخر و اسب های نفیس . طمعش به حرکت آمده نعره برایشان
 زده گفت : ای جوانان : اگر نجات خواهید بگذارید آنچه با شماست
 و به سلامت بروید پیش (۲۰) از آنکه بامرگ دست و گریبان شوید . و از
 کرده پشیمان گردید .
 پس یکی از ایشان برو نعره ای زد که زمین به جنبش درآمد و
 گفت : مادر بر تو گریه کناد و قوم تو به مرگت نشیناد ، تو کیستی ؟ که
 با اکابر بطحا و بزرگان صفا و سادات حرم و همسایگان زمزم این بی
 ادبی می نمایی ؟ .
 گفت : من مقداد بن اسود م از قبیله کنده . شما کیانید ؟ .

یکی گفت : آن یک عباس بن عبدالمطلب است و آن دیگری برادر اوست ، خمزه بن عبدالمطلب و آن دیگری شیبیه است برادر ایشان ،^{*} ومن عتبه ام . تراچه برین داشته که نفس خود را در مهلکه اندازی و قافله را نالان کنی ؟ و بر جوانی رحم نداری و باپیران در مقام آزاری .

گفت : مرا عشق و محبت برین کار داشته که بر میاسه دختر جابر کندی عاشقم . وجابر از من مهر گرانی طلبیده ، که او را به من دهد .

فرمودند که از دختر و صفت مهرش مارا خبر کن .

گفت : اما صفت دختر اینکه حسن و جمال و غنج و دلال و شجاعت و شهرتش در مرتبه ایست که جمعی کثیر از قریش به طلب او آمده بودند و قصه آمدن و برگشتن ایشان چون به مکه برسید گوش زد شما خواهد شد . و از اکابر و اهالی عرب بسا کسان خطبه اش نموده اند وسر به هیچ یک فرود نیاورده و مرا پسندیده چنانچه مرا دل دریند اوست . او نیز در آرزوی وصال من است . اما مهر او را جابر بر من وعده کرده که تا سه ماه متوالی اگر فلان و فلان و هر چه جابر ازو طلبیده بود نام برد - بیرم دختر را به من دهد . و الا فلا .

وچون مقداد قصه را نقل نمود عباس گفت : والله که جابر بر تو تعدی کرده و ازین مهر طلب کردن غرضی نداشته ، الا آنکه دختر به توندهد . باری چون من قادر برای این همه نیستم ترا مددی نمایم و غلامی را گفت : که صد شتر مرا ازین شتران جدا کرده (۲۰) به مقداد بسپار . وچون حمزه دید که برادرش شتران خود را به مقداد داد و او

* باید به جای ایشان ، من باشد .

نیز به سنت برادر عمل نمود . و عتبه و شیبه نیز گفتند : که شما از ما
کریمتر نیستید و هر چهار از شتران خود گذشته با اسبابش به مقداد
تسلیم نمودند . و مقداد هر چند ابا نمود فایده نداد . کسان همراه کردند
که شترها را به جهت او برازند و گفتند : امید واریم که تتمه آنچه جابر
برای مهر دخترش از تو طلبیده با حسن وجهی پیدا شده ، به مراد خود
بررسی و مقداد ایشان را دعا کرده . این چند بیت در مدح ایشان گفت :

ز اولاد هاشم بزرگان دین

چو ایشان نباشد بروی زمین

عطای کردن مال پیش از سوال

بریشان شده ختم ، در کل حال

به من هرچه شان بود از نقد و جنس

سپردند این مهتر جن و انس

وزان به کی * بی سابقه بندگی

که گاش آنچه بودی ترا مدعای

خدایا توئی کارساز عباد

بزویدی بده جملگی را مراد

واز ایشان مرخص شد .

باز دشت و بیابان و کوه و صحراء زا سیر می نمود . و منتظر

فیوضات غیبی و واردات لاریبی می بود . تا به مدان نزدیک شد . و در

خاطرش خطور کرد . که اگر به کسری و لشکر او می رسیدم یمکن که
 بامطلوب در آغوش می گردیدم . و شربت وصال جانان نوش می نمودم .
 چه عنقریب وعده موعود بسر آمده و جابر از عهده عهد بر آمده .
 درین اندیشه بود ، که از دور سیاهی لشکری را به نظر در آورد .
 و هر چند پیشتر می آمد طمعش بیشتر می شد . تا آنکه رسید به
 جماعتی که سیصد کس بودند . و هزار شتر مال داشتند . از سرکار (ی) کسری و بجایی از پی کاری می رفتند . دندان طمع در آن فروبرده
 فریاد کرد . که ای قوم آنچه باشماست بگذارید و به سلامت برگردید ،
 پیش از آنکه مرگ شما را گریبان (۲۲) گیر شود (و) درین صحراء تن
 های شما طعمه دام و دد گردد . چون آن جمع آواز او را شنیدند برو
 خندیده گفتند یا دیوانه است یا گرسنه . گوش به حرفش نکردند .
 و چیزی به بهاش ندادند . و چون دیدند که سر راه گرفته ، در آن گفتگو
 بجد است برو حمله کردند . و او چون آتشی که درنی افتد یا مخموری
 که در می افتد ، درمیان ایشان افتاد و یک یک را بر زمین هلاک می
 انداخت . نا آنکه وقتی واقع شدند که صد کس از ایشان را کشته و
 مجروح ساخته بود . باقی به هزار ترس و بیم راه فرار را پیش گرفته ،
 جانی به تک پا بدر بردن . و مقداد شتر و سلاح ایشان را جمع کرده از
 راه به کناری رفته ، منتظر نشست که از غیب چه پیش آید .
 گریخته ها خبر به کسری رسانیدند که سواری از عربان بادیه سر
 راه بر ما گرفت و از ما صد کس را کشته هر چه با ما بود از ما گرفته ، در
 فلان موضع نشسته است . و به غیر از مال و اموال ما دگر مال و منال و
 خدم و حشم بسیاری هم با او بود .

چون کسری این قصه را شنید غضباتک شده گفت : ای واى
 برشما : که سیصد کس زیون یک عربی شده اید ، و صد کس شما را

کشته و هر چه باشما بوده صاحب شده شمارا شرم نمی آید که حرف
می زنید؟ گفتند: هر که برود آنچه ما چشیده ایم خواهد چشید. و هر چه
ما چشیده ایم خواهد کشید.

کسری را غصب زیاد شده سرداری از لشکر ش را طلبیده گفت:
جمع را برداشته برو و این بدوى را گرفته باهر چه دارد پیش من آر.
سردار مستعد شد. چهار صد کس از مردان کاری و شجاعان کار دیده
کار زاری برداشته رفت. تا آنجا مقداد بود. و به لشکر سفارش نمود
که او را مکشید که زنده او را به نزد پادشاه ببریم.

چون مقداد را چشم بر ایشان افتاد همان گفتگونی که با آنها
کرده بود با این ها کرد. (۲۲) و غمخواری که باستی نمود، نمود و
گفت. زنهار که بر جان خود رحم کنید. و اسباب ویراق را گذاشته به
سلامت برگردید. والا آنچه بینید از (چشم) خود بینید و این دو بیت بر
ایشان خواند:

من آن شیرم که اندر روز هیجا

رهانیم بیدلانرا از فلات

بخاک مرگ اندازم یلانرا

چشانم جمله را جام هلاکت

و چون سپاهیان تازه زور کلامش را شنیدند برو حمله کردند و او
از ایشان حسابی نگرفته در آن میان افتاد. و چون گرگی که در گله افتاد
در اندک فرصتی پنجاه تن از ایشان کشته بسیاری را مجروح ساخته از
پیشش گریزان شدند. و ترسان و لرزان خبر به کسری بردنده که این
اعرابی از تیر و شمشیر پروانی ندارد. و نیزه در وی کار نمی کند.
و اگر می خواست هر که را از (ما) مانده است به هلاکت می رسانید.
اما کرم و جوانمردی نمود و برین جمع که مانده اند ترحم فرمود.

کسری را غصب به جوش آمد و سرداری دیگر را که گمان
شجاعت و مردانگی تمام به او داشت طلبیده گفت : می شنوی ؟ که
این نامردان چه می گویند و از یک کس بچه سان گریزان شده اند .
پانصد سوار مردانه بردار و سر این اعرابی را بیار و اگر او را کشید و
این غم از دل من بیرون بردید شما را انعام و جایزه در خور خواهم داد .
آن سردار سمعنا و اطعنا گفته پانصد مرد کار آزموده جنگ دیده
مکمل و مسلح و مغفرها بر سر و زره ها در بر ، شمشیر های هندی
برمیان و اسبان تازی در زیر ران متوجه کشتن مقداد شدند .
وچون به آن سر زمین رسیدند که آرامگاه او بود دیدند که از
شکار برگشته و آهویی صید کرده . و او چون لشکر تازه دید دانست که
به حرب او آمده اند . از اسب به زیر آمده تنگ اسبیش را کشید و
زرهش را پوشید و خود بر سرنهاد نیزه خطی بدست گرفت (۲۴) و
استقبال ایشان کرده رجزی خواند که مضمونش این بود :
من اینک رسیدم مهیای جنگ

به دستم یکی صارم سرفشان
همان نیزه ازدها صولتی

که کردست عادت به قتل کسان

چو جولان کنم من به میدان حرب
بشارت شما را به ذل و هوان
و بریشان حمله ای کرد و کارزاری نمود که عجم را جنگ رستم دستان
و عرب را شجاعت عنتر و سایر شجاعان از یاد رفت . می زد و می
بست و می کشت و می خست تا وقتیکه از آن لشکر نصفی کشته شدند
ونصف دیگر اسب و اسلحه را گذاشته . نیم جانی به صد رحمت بدر
بردند . و از جهت کسری خبر بردنند .

غلامان و چاکران و مقداد اسب‌ها و اسلحه‌ها را جمع نموده
مقداد به مقام خود باز گشت. و با خاطر حزین و دل اندوهگین با خیال
میاسه در گفتگو شد و در فکر دور و دراز فروشد. نه می‌خورد و نه می‌
خفت، می‌گریست و می‌گفت: که کیست تا از من خبر دهد سلاله
جابر را و آن دلنواز دلبر را، آن مشک موی، خورشید روی مهربان،
نیکو خوی ابروکمان، تنگ دهان باریک میان، عراقی^(۱) زبان، نازک
خد، بلند قد، آهونگاه من؛ کان سیاه کندیه الاصل محل الوصل، که
آن (این) غریب مهجور مشتاق گرفتار به محنت فراق، به امید وصل
جانان هر دم خود را در آتش سوزان می‌افگند و می‌اندازد. جان
میدهد و سرمی بازد. کسری^{*} در لشکر کسری انداخته و جمعیت
شان را پریشان ساخته، بسیاری را شربت مرگ چشانید تا خود را به
کناری کشانید و این هنوز اندکیست از بسیار و تا آخر به کجا رسد
کار.

وچون بقیه السیف، آن لشکر به خدمت کسری رسیدند. با رنگ
های زرد و تن‌های لرزان و محاسن‌های^{**} خاک آلود و دل‌های
ترسان. از سختی آنچه دیده بودند و مشاهده نموده گفتند: ای پادشاه
زمین و زمان و ای ملک دوران؛ مارا نفرستادی الا بسوی آتش
افروخته که هیچ آبی شعله او را فرو نمی‌نشاند. و او به هیچ نحوی
از پانمی نشیند، دردی است که دوا ندارد و بلاهی است که علاج نمی‌
پذیرد.

پس ملک از شجاعت مقداد تعجب نموده، غضب برومی‌شود

۱- چنین است در اصل شاید عربی با مراد لمجه عراقی باشد.

* یعنی شکستی ** ریش و سبل.

سرداری را که اعتماد تمام بروداشت . باز باشش صد سوار یکه گزین
انتخابی ، راهی نمود . به مال و جاه و عده داد و وصیت نمود که البته او
را وهر چه با او هست بیارند و بی او یا سر او برنگردند . که کسی از
ایشان عذر نخواهد شنید .

لشکر کسری می آمدند و دل ها در برشان می طبید . و چون به او
رسیدند . دیدند که از اسب پیاده شد و احتیاط تنگ اسب نموده جنگ
را آماده شد . زره جنگ را پوشید و جرمه غضب را نوشید . و بر بشان
نعره زد که ای از جان و زندگانی به تنگ آمدگان و با شیر شرذه به
جنگ آمدگان : بگذارید آنچه با شماست و سر خود گیرید والا دانسته
باشید که در چنگ مرگ اسیرید . لشکریان همه به یک بار برو حمله
کردند . و او به تن تنها بر آنها حمله نمود . و ده نوبت حمله ها متواتر
شده در هر حمله بیست کس از ایشان بر خاک هلاک افتاده باقی فرار
بر قرار اختیار نمودند . و زندگی را فوز عظیم دانسته خود را بکسری
رسانیدند . و (مقداد) چاکران و اسلحه و امتعه و خیل و اسباب قوم را
فرمود تا جمع نمودند . و او خود آمده نشست و بر سر گفتگو رفته خود
بخود این مضمون را ادا می نمود .

به میاسه از من رساد این خبر که بر خیل کسری زدم بارها

بر افروختم آتش حرب را

زمن فاش شد درجهان کارها

اگر چه زمن رفت در شرق و غرب

چه کردار های ، و چه گفتارها

چو از عهده عهد جابر برون

نیایم بجاهست ادب ایشان

وچون در شهر مدارین هیچ خانه ای (۲۵) نبود که آواز گریه و فریاد و نوحه نباشد از کشته های مقداد . و مکرر گریخته ها به خدمت کسری آمدند و از شجاعت او هر چه باید و شاید گفتند . کسری وزیر را طلبیده گفت : این مرد عرب دیدن دارد . اگر توانی که او را به اینجا رسانی که من بینم ، که این چه قسم جوانی است . و آنچه از او میگویند راست است یا دروغ . ممنون می شوم . وزیر گفت هر چه امر عالی به آن صادر شود ، در امضای آن بجان می کوشم . و پرده بر تقصیرات خود می پوشم . ملک فرمود که انگشتتری مرا برده به مقداد بنما و بگو که در زینهار منی و کسی را با تو کارنیست . بیا تا ترا ببینم و گلی از درخت مردانگی تو بچینم . وزیر سر فرود آورده ساز رفتن کرد .

وبعد از آن که به خدمت مقداد رسید گفت : اگرچه وزیرم اما بالفعل رسولم ، ندانی که مهمان فضولم و ملک مرا فرستاده و اینک انگشتتری زنهار داده و رخصت یار فرموده که بخاطر جمع آمده شرف پای بوس پادشاه دریابی . و از او تاج و افسر یابی . و وزیر عارف به لغت عرب و عجم بود . با مقداد گفتگوها کرد و صحبتها داشت . و او را خرم و خوشحال به خدمت پادشاه برد .

ومقداد هم چنانچه عادت عرب است در اثنای صحبت به کلام موزون تکلم می نمود . چنانچه در خلال مدح او قصه عاشقی و طلب مهر ، و گشتن در طلب او شهر به شهر ، بیان نمود . تا معدورش دارند . وهمت بر عفو جرأت جسارتش گمارند ، شعر :

ای وزیری که در جهان هرگز

هیچ شاهی نداشت چون تو وزیر

تو چون جانی و این جهان چون جسم
تیود جسم را ز روح گزیر

گر کنی گوش ای ستوده خصال
قصه من که غصه ایست کبیر
نکنی یاد از جسارت من
نشمری کرده مرا تقصیر
عاشقم پیش دلبری که ورا
نیست اندر جهان عدیل و نظیر (۲۱)
پدرش خواسته * زمن مهری
که از آن عاجزند شاه و وزیر
زان زنم خویش را بهر آتش
را زان روم درمیان خنجر و تیر
که مگر کشته گردم و برهم
یا در آید بدست مال خطیر
گر کنی رحم بر غریبی من
یاشوی پیش شاه عذر پذیر
جای دارد از آنکه من هستم
عاشق و بیکس و غریب و فقیر
پس وزیر را شعر او بسیار خوش آمده خلعت فاخر بزرگانه و اسبی از
نفایس روزگار بازین طلا و براق ملوکانه با هزار مثقال طلا
و سلاح پادشاهانه به مقداد عنایت نموده اسبابش را در بیرون شهر در

* دراصل: خاسته

حصاری محکم حکم محافظت کرد . و او را با خود بدرگاه برده ، به پابوس شاه رفت ، و رخصت داخل شدن او حاصل نموده . طرز و طریق خدمت پادشاه تعلیمش فرمود .

وچون مقداد را نظر بر ملک افتاد زمین را بوسه داد و سلام تعظیم و کرنش و تسلیمی که در خور شاهان باشد بجا آورده قصیده ای غرا که در کمال فصاحت بود در مدح کسری خوانده ملک را خوش آمد تحسینش نمود و ده هزار دینار صله اش داده به او خطاب نمود . که ای مقداد : ترا چه برین داشت که راه زنی و قافله تالان کنی * و رحم بر بندگان خدا ننمائی ، و خود را در مهلكه اندازی (مقداد) زمین خدمت بوسیده گفت :

عمر ملک دراز باد . جابر نام عربی است نامدار در قبیله ما . دختری دارد با حسن و جمال که در عرب شبیه و نظیر ندارد . برو عاشقم ، وچون او را خطبه کردم قبول نمود . ولیکن به مهر گران ، که کم کسی را آن میسر تواند شد . واز آن مشکلت اینکه از من عهد و شرط گرفته که اگر تاسه ماه آن مهر را تحصیل نکرده باشم دختر را به هر که خواهد بدهد .

پس ملک گفت : اولاً صفت دختر چنانچه هست بیان نما ، و ثانیاً مهری که طلبیده به تفصیل عرض کن . مقداد به زبان فصیح و بیان ملیح از سماحت و شجاعت (۲۷) و مهر و محبت میاسه و تفصیل مهری که جابر ازو طلبیده در خدمت کسری به نحوی بیان کرد که کسری را خوش آمده فرمود : که جابر بر تو تعدی کرده این قسم مهری گران طلبیده من از عهده آن برمی آیم و ترا دوست کام به مطلب و مطلوب

* تالان کردن یعنی غارت کردن (غیات)

می رسانم . اما بگو که اگر در راه هزار کس بتو رسند و خواهند که هر
چه داری از تو بگیرند ، با ایشان چه خواهی کرد . گفت : ای صاحب
مقداد ! شمشیر از نیام بر می آرم و نیزه را بر ایشان می خواباتم تا ببینم
که خدا به که می دهد . و چه از غیب رخ می نماید .

ملک فرمود ای مقداد ! دوست دارم که جنگ ترا ببینم و
محاربه ترا مشاهده نمایم . مقداد زمین خدمت بوسیده گفت : حبأ و
کرامه ! امر امر خداوند است اگر به جد باشند هزار سوار را امر نماید
که سوار شوند ، و در هر میدان که حکم ملک صادر شود جمع آیند . و
از طعن و ضرب و فنون شجاعت در روز حرب همه هر چه دارند بعمل
آرند . اگر برمن غلبه کردنده هر چه تا امروز بهم رسیده است با خون
من بریشان حلال . و اگر زیادتی از من باشد خیل و سلاح شان از من
و نصیب ایشان خسران و نکال . کسری فرمود که ای مقداد ! نیکو گفته
و دُر انصاف را نیکو سفتی . باید که فردا حاضر شوی ، تا من امر
نمایم که همان جمع حاضر آیند و با تو محاربه نمایند . و ما آنچه تا
امروز از مردانگی تو شنیده ایم برای العین مشاهده نمائیم . و مقداد را
رخصت نمودند که باقی روز به استراحة مشغول شده روز دیگر به
درگاه ملک حاضر شود .

کسری وزیر را امر نمود ، که هزار سوار انتخاب نموده همه را
اسپ و زره و تیغ و کمر و نیزه و سپرداده حکم نماید که فردا صبح در
میدان حرب به عزم طعن و ضرب با این جوان عرب حاضر باشند . و
خاطر مرا به گزلک * عذر نخرا شند . وزیر هم (۲۸) انگشت قبول
بردیده نهاده سر فرود آورد و نقیبان را امر کرد تا لشکریان را جمع

* باکره اول ولام . کاردکو چک با دسته دراز . (برهان قاطع) .

کرده ، از ایشان هزار جوان کار آزموده انتخاب نمایند و امر به احضارشان فرمایند .

نقیبان هم بفرموده ، عمل نموده لشکر جمع نمودند . و انتخاب فرمودند وهمه را اسب و سلاح دادند . روز دیگر که آفتاب عالمتاب دنیا را به فروغ خود روشنی داد . از آن طرف مقداد و از این طرف لشکر کسری در میدان جنگ صفت آرایی کردند . و کسری بر تخت کامرانی نشسته . مقداد را پیش طلبید تا به بیند که بر همان عزم باقیست یا نه . مقداد زمین خدمت بوسید و گفت : چون ملک مرا به این امر مأمور ساخته التماس دارم که حکم کند که تا لشکریان هر یک جامه سفید بر بالای زره پوشند تا بعد از آنکه میان من وایشان طعن و ضرب ردوبدل شود، بر ملک ظاهر شود که نیزه من به ایشان رسیده یا نه . و خوشبویی از زعفران و مشک را فرمود تا حاضر کردند . و سنان نیزه اش را کنده پارچه ای از حریر بر نیزه اش بست . و لشکریان جامه های سفید بر بالای زره ها پوشیدند و برخست ملک بر مقداد حمله کردند . و مقداد بریشان حمله کرد . و در میان ایشان افتاده سه چار نوبت ازین سر و از آن سر به این سر دوانیده به خدمت کسری آمد . گفت :

تفحص نمایند که درین میان کسی هست که نیزه من به او نرسیده باشد و علامت نیزه برو نیاشد ؟

چون کسان به تفحص فرستادند هیچ یک را بی نشان نیافته کسری را غضب به جوش آمد . گفت : وای بر شما : این یک مرد است نه از شما تیری و نه نیزه ای و نه شمشیری به او رسیده . و یک کس از شما نیست که سر نیزه ای از او به او نرسیده باشد . و هیچ یک از شما بی سلاح نیستید . بلکه بعضی باشد که سلاخش (۲۹) بهتر

باشد . این چه نامردی و ناجوانمردی است . این را چه توان گفت . و از دور و نزدیک هر کس بشنود چگوید . ای مقداد ! این هزار کس را بتو حواله نمودم همه را به تبع بیدریغ بگذران ویکی را زنده مگذار . وهرچه دارند از اسب و سلاح بردار که این ها را زندگی عار است . و موجب ننگ و شماراست .

مقداد حسب الامر شمشیر کین از نیام کشیده رو به ایشان نهاد و چون چندی را کشت همه به یک بار به زاری در آمده گفتند ، زنhar : زنhar : و چون مقداد معنی زنhar رانمی دانست ، همان بکار خود مشغول بود . وزیر به خدمت ملک آمده شفاعت نموده گفت . این قوم این مرد را مهمان ملک می دانستند و چون دیدند که اوستان از نیزه دور کرده با خود گفتند : که چون او قصد هلاک ماندارد . اگر ماعزم کشتن او نمایم ، شاید که بر خاطر مبارک ملک گران آید . و چون به زنhar آمده اند . اگر عفو فرمایند ، از کرم جبلی دور نباشد . پادشاه قلم عفو بر گناه آن بی گناهان کشیده مقداد را اشاره نمود که دست از ایشان بردار . مقداد دست باز کشیده و کسری به مجلس آمده بر تخت پادشاهی نشست و وزیر را امر نمود . که ده برابر آنچه جابر در مهر دختر از مقداد طلب نموده عطا کن .

وزیر حسب فرموده از طلا و نقره و اسب و استر و امتعه و اثاث البیت و کنیز و غلام و مروارید و انگشتر و مشک و عنبر به مقداد عطا نمود که محاسب هم از حسابش عاجز آمد . فرمود که ای مقداد ! اگر نه آن بودی که ترا آن محبت در دل و آن هوا در سراست ترا رخصت نمی دادم ، واز خود جدا نمی کردم . ومقداد زمین خدمت بوسیده گفت : اگر آنچه ملک فرمود نمی بود از خدمت چنین صاحبی دور نمی شدم و از این درگاه جدائی اختیار نمی کرده و اگر زنده بمانم باز امید وارم

به پابوس مشرف (۳۰) شوم و چون وعده جابر تزدیک است از ملک رخصت انصراف می خواهم که به توجه ملک به مطلوب برسم .

درین وقت وزیر را چون وزرای جیدر آباد رگ حسد به حرکت آمده کفایتی به خاطرش رسید که عربی چون بلایی ناگهان بیک بار پیدا شود ، و چندین خلق را از عجم هلاک کند و به مزد دست این قدر مال و منال ازین شهر بدر برد . بی عقلی ست تن به این رخصت در دادن . و سفاهت است به این معنی راضی شدن به خدمت کسری آمده دعا و ثنای او بجا آورده گفت : زندگانی ملک دراز باد . من در کتب مجوس خوانده ام و از مؤبدان شنیده که در وقتیکه از ملوک عجم کسری نام پادشاهی پیدا شود که در روی زمین به قدرت و شوکت اونباشد در زمین عرب شخصی بهم رسد محمد نام و از اصحاب او جمع شجاع و دلیر باشند و یکی از ایشان مقداد نام باشد . و زوال ملک عجم بدست ایشان باشد و مرا در گمان می آید که این مقداد آن مقداد است . چه می شنوم که در عرب آن محمد نام پیدا شده و دعوی پیغمبری می کنند . پس ما چرا بگذاریم که این مرد زنده ازین ملک بدر رود . و این قدر مال و منال از عجم بدر برد . به حیله ای او را هلاک باید کرد . و اموالش را صاحب شد .

کسری گفت : وای بر تو آنقدر از لشکر را به جنگ او فرستادی و همه را نیست و نابود کرد . و دیروز هزار کس را به جنگ انداختی و برهمه غلبه نمود . به چه حیله او را توانی کشت . و به چه نحو او را هلاک توانی ساخت . گفت : من اول غافل شدم و اکنون بیادم آمده . آن شیر را که در بند داری برو سر میدهم او را مهلت نمی دهد که بجنبد . و از او به این سبب خلاص می شویم . به حیله روباهانه ای که نام شیر برد کسری را با خود همداستان کرده .

روز دیگر که مقداد به طلب رخصت آمد وزیر گفت : ملک می
 فرماید که شیری عظیم را به هزار حیله دربند داریم ، که از کوچکیش
 بزرگ کرده ایم . و هر روز یک کس و دو کس از مردم ما را ناچیز می
 کند . و از او به تنگ آمده ایم . اگر شر او را ازما دفع میکردی از تو
 ممنون می شدیم . و آن شیری بود که چون رعد می غرید و چون برق
 می جست آوازش تا دوفرستخ می رفت . و اگر بر جمعی غضب می
 گردند سه و چار را یک شکم می خورد ، و پنج و شش را در یک دم می
 کشت . و دو سه روز بود که گرسنه بود . به سایس سبع گفتند که او را
 آورده بر مقداد سرده و مقداد را گفتند اینک سبع می آید . با خبر باش
 . و چون مقداد شیر را از دور دید کمریلی بر میان پر دلی استوار نموده ،
 شمشیر کین از نیام کشیده متوجه شیر شد . و شیر را چون چشم بر
 مقداد افتاد ، جستن کرد . و آن شیر معركه ، شمشیر را چنان بر دهن
 شیر نواخت که تاکمرش بدونیم شد . هر نصفی بظرفی افتاد و فریاد از
 خلق بر آمده ، بر دست و بازوی مقداد آفرین خوان شدند .
 و ملک را آن ضرب دست به فکر دور و دراز انداخته . مقداد را
 طلبیده گفت : مرا تماشای نیکو فرمودی . هیچ حاجتی دیگر داری ؟
 گفت : حاجت های مرا جمیعاً روا کردی و مرا در عرب و عجم نامدار
 گردانیدی . ذکر حاجتی بغیر از سلامت ذات با برکات ملک ندارم . چه
 سلامت همه آفاق در سلامت تست . حاجت من رخصت برگشتن است
 . ملک فرمود که البته از من حاجتی درخواه که صلة کشن شیر در ذمه
 من باقی است . گفت چون ملک بجدست هر چه خواهم رخصت طلب
 آن هست ؟ گفت : هست بگو واندیشه مدار . گفت : این تاج را که
 ملک بر سر دارد می خواهم که در روز عروosi میاسه (۳۲) بر سر نهم
 تا در میان عرب موجب سرفرازی من باشد . فی الحال ملک تاج خود

را که هفت ساله خراج ملک مصر بود از سر برداشته به مقداد بخشید
مقداد دست به دعا برداشته کسری را دعا نمود و رخصت گرفته این
چند بیت را مدح ملک انشاد نمود :

ذشاه جهان کسرای نامور

که چون او زمانه ندارد بیاد

شدم نام پرداز و حاجت روا

غنى گشتم و رفت فقرم بیاد

نکرده است هرگز کسی آنچه کرد

به من این شاهنشاه باعدل و داد

زهر جنس و هر چیز و هر حاجتی

که یک خواستم ، شه مرا ده بداد

کنون می روم خوشدل و دوست کام

خدایش جزایی به نیکی دهاد

واز پیش ملک بر آمده با اسباب و سامان و اسباب و شتران به
غوغائیکه شرح نتوان داد . منزل به منزل طی مراحل می کرد که شاید
زودتر خود را به خدمت جابر رسانیده از عهده عهد برآید . و فراق
میاسه بسر آید .

واما جابر چون مدتی گذشت و خبری از مقداد نیامد بخاطرش رسید که
آنچه من از مقداد طلب کرده ام امریست قریب به محال که اویک کس
و غریب بیکس بهم تواند رسانید و مدتی از وعده نیز گذشت ظن من
آن است یا مرده باشد یا کشته شده ازین بیش انتظار او نباید کشید .

وانفاقاً مالک بن رماح بزرگی بود از قبیله سنبل و آوازه حسن و
جمال میاسه شنیده بود . برادر خود را با مال و منال بی شمار به
همراهی شصت سوار نامدار به خدمت جابر فرستاده که او خطبه نمود و

جابر راضی شد و قبولش افتاد . و هر چند که میاسه گریه و بیقراری نمود ، فایده ای برآن مترتب نشده . او را در هودجی نشانده روانه قبیله مالک نمودند . میاسه نالان و گریان ، واین جمع شادان (۳۲) و خندان ، شکارکنان و صید افکنان می رفتند . در فکر که کی به خدمت مالک رسیده از او انعام ها و جایزه ها بیابند .

که صبح از دور قافله ای عظیم را دیدند که می آید . پیش قافله جوانی در کمال زیب و زیست . و مقداد هم چون آن جمع را دید هودجی همراه دارند . هر چند که این طور واقعه ای در متخلیه اش نمی گذشت . اما دلش به طبیدن در آمده ، بربی قراری دل صبر نتوانست کرد . پس اسب را پیش رانده پرسید ، که شما کیانید واين هودج چیست ؟ گفتند : ترا به این گفتگو ها چکار ، واز این پرسیدن بی فایده ترا چه سود . که بدانی این کیست . گفت : هر چه شما راهست گذاشته بسلامت بروید .. گفتند : اگر شعر توانی گفت مارا مدحی کن تابه تو نفعی رسانیم . و اگر صاحب هودج را مدح کنی خود خیر بسیار یابی . چه او زوجه مالک بن ریاح * سنبسی است ، میاسه دختر جابر کندی .

مقداد چون این گفتگو را شنید دود از دماغش بالا رفته گفت :

بشارت مبادرتا به خیری ، ای بشارت دهنده ، و ونیزه ای چنان برسینه گوینده زد که از پشتش سر بیرون کرد و گفت : که ای وای ؟ که بامن خیانت نموده ، غدر کردند و حرمت عهد و پیمان مرا نگه نداشته ، نقض عهد را سهل پنداشته ، آرام جان مرا بدست بیگانگان سپرده و گذاشته . نه از خلق شرمی و نه از خالق آزرمی . من هم تیغ تیز را از

* پیش از این ، ریاح آمده . پس از مردم مارا کشتن امداد خود مادر و مشهود

خون ایشان سیراب می کنم . و خانه عمر همه را خراب ، تا فایده
نقض عهد را بدانند که چیست و بفهمند که غدرشان با کیست .
اول از این ها سر کنم که به اعتقاد خود مطلوب مرا از دست من
بیرون برده اند ، تابه آنها برسم که مرانیست و نابود شمرده اند .
بچشانم این قوم را شربتی از این نیغ هندی . تا بدانند که نمرده است
مقداد کنندی . بگذارید ای خون (۳۶) آرزوی مرا وسهل مدانید
گفتگوی مرا . شما به سلامت به قبیله خود برگردید تا من مطلوب خود
را برگردانم . و چون آن جمع کلام او را شنیدند ، گفتند :
بس کن ازین مقال و از دل بیرون کن هوای محال . تو یک کس
بیش نیستی و ما شصت کسیم . یک کس با شصت کس چه تواند کرد ؟
و چه کار از پیش تواند برد ؟ مقداد گفت : گرگ هم پیکیست و گله
بسیار و شیر پیکیست و دام و دد بیشمار . گفتند : اجلت دامن گیر شده
یا تنت از جان سیر شده ؟ مقداد چون دید که در دست جهل و غرور
اسیرند و دانست که از جان سیرند . چون آتشی که در نیزاری افند ،
در میان ایشان افتاده در طرفه العین بیست کس را شربت هلاک
چشانید ، و هودج مطلوب را به کناری کشانید . و بر او بیتی چند خواند
که ترجمه اش اینست . شعر :

ای صاحب هودج که به این حالی شاد

هیچت نامد ز عهد و پیمانم یاد ؟

در وقت وداع بسته بودی عهدی

این بود آخر نتیجه مهر و وداد

ای صاحب هودج ای بت عهد شکن

خوش زود فراموش نمودی از من

سر بیرون کن ز هودج خویش و بین

خویشانت را بخون شده غرقه کفن

وچون میاسه این شعر ها را شنید بی تابانه از هودج بیرون آمده ،
دامن به خاک کشان و اشک از دیده فشان ، قسم ها خورده زاریها کرد
. که مرا گناهی نبود . واصلًاً به این معنی راضی نبودم . و دلم همان گرم
محبت تست و دیگریرا بر تو نگزیده ام . وغیری را بجای تو نپستنیده
ویک دم بی گریه و زاری وفغان ویقراری نبوده ام . لیکن با قوم و
قبیله و پدر و مادر و اهل عشیره چه توانم کرد . که گمان این داشتند
که ترا هلاکت دریافته و مرگ سر پنجه حیات را برتابته . و صاحب
شوکتی مالدار را طالب خویشی خود یافتند (۳۵) و آنرا غنیمتی عظیم
داشته به یاری و مددگاری او شتافتند . ومن این دم فرحانم که با وصال
دوست دست گریبانم . مرده بودم اکنون زنده ام ، ولی از خجالت
شرمنده ام . و در برابر اشعار او این مضمون را ادا کرد :

هر چند که کردی ام ملامت ای دوست

صد شکر که دیدمت سلامت ای دوست

گر دیر تر آمدی نمی ماند از من

نه نام و نشان و نه علامت ای دوست

معلوم کن ای یار ملامت گرمن

کامد ز قبیله ام چه ها برسر من

گر زان نمی کردیم از بند خلاص

چادر بودی کفن زمین بستر من

پس مقداد بار دیگر آهنگ حرب ایشان کرده یک برادر مالک بن

رماح در برابرش آمده رجزی خواند و جوابی شنید . و بعد از آن گفت :

ای مقداد ؛ اگرچه جمعی از مردم مارا کشتب اما به خود مغورو مشو ،

که همیشه فتح از یک جانب نمی باشد. گاه از پشت و گاه بر پشت.
بیا تا ما و تو از میاسه بپرسیم. اگر مازا خواهد تو سر خود گیر، و اگر
ترا خواهد ما او را واگذاریم و از بی کار خود برویم. چه ایشان گمان
داشتند که گریه و زاری ناله و بیقراری میاسه از فراق مالک است.
چه تعریف کرم و سماحت و مردانگی و شجاعت مالک را بسیار کرده
بودند و شوق و محبت او را به میاسه اظهار نموده بودند. مقداد گفت:
من هم به این معنی راضیم.

پس برادر مالک با مقداد و چندی از مردم فهمیده آن جمع بیای
هودج رفته گفتند: ای میاسه؛ این کشن و کوشش همه به جهت خاطر
تست. یکی از این دو کس را اختیار کن، تا این جنگ و فساد
برطرف شود. و به این راضی میاش که جمعی کشته شوند. میاسه گفت
: بهر چه من اختیار کنم هر دو طرف راضی خواهید بود. گفتند بله،
رضای ما رضای تست. گفت: من مقداد را اختیار کردم. و این
امروزی نیست بلکه مدتیست که دلم (۲۷) دربند اوست. و به آنچه قوم
و قبیله من کرده بودند راضی نبودم. و چون مردم مالک گفتگوی او را
شنیدند از قول خود پشیمان شدند.

و بعد از قال و قیل در میانشان اختلاف به هم رسید. عون بن عامر
مردی فهمیده بود برادران او می گفتند این مرد بربین دختر عاشق
است و تاکشته نشود از سر این دختر نمی گذرد. به مقتضای لا تُلُقُوا
بایدِیکم إلی التهلکة. دست ازو باید داشت و به سلامت مراجعت نمود.
و برادر مالک را با دیگران جهله جاھلیت دامن گیر شده می گفتند. می
خواهید در محافل و مجالس عرب ما را به جبن و عار و بد دلی و فرار
نام می بردہ باشند. و در قبایل عرب ضرب المثل شویم که شصت کس
را یک کس عاجز و زبون ساخت. و عروس مالک بن ریاح را از

ایشان به ضرب شمشیر گرفت . و به موجب النار ولا العار به جنگ کردن و کشته شدن راضی تربودند . آخر عون بن عامر با یاران خود به کناری رفته ، و برادر مالک در برابر مقداد آمده به طعن و ضرب و جنگ و حرب مشغول شد . و مدتی مدد پا در جنگ قایم کرده حمله های مردانه نمود . و آخر به نیزه مقداد که بر سینه اش خورد و از پیشش بدر رفت بر زمین هلاک افتاد . و برادر دیگری چون برادر را کشته دید . حمیت جاهلیت اش به حرکت آمده به خون خواهی برادر آمده بر مقداد حمله کرد . و ساعتی بر حمله های مقداد صبر نموده در میانشان طعن و ضربی چند رو بدل شده ، به برادر ملحق شد . و مقداد جولانی نموده و این دویست را انشاد نمود .

ای قوم ضعیف طعن و ضربم دیدید

زین پیش به خود جور و جفا پسندید
زنها ر به قوم خویشن بزرگردید
زان پیش که از کرده پشیمان گردید
و چون بقیه السيف برادران مالک نصیحتش را نشنیدند بریشان حمله کرده یک یک را بخاک می انداخت (۲۸) تا از ایشان کسی نماند .
وعنان را به جانب عون و رفیقانش معطوف ساخته خواست که بر ایشان حمله کند .

میاسه آواز داد که به عون و اعوانش کار مدار که او آنها را از قتال تو منع می نمود گوش به حرفش نکردند . سخن میاسه را شنیده عون را رخصت انصراف داد .
وغلامان را فرمود تا اسب و سلاح کشتگان را جمع نموده ،
خیمه ابریشمین زده فرش های دیبا و استبرق گستردند . و میاسه را به خیمه در آورده بر وصال مطلوب شادی ها نموده ، خادمان طعام های

گونا چون مهیا کردند . و ساقیان ماه پیکر جام و می به مجلس آورده
پیاله های شراب ناب به گردش در آورند و خوانندگان به خوانندگی
وسازندگان به سازندگی مشغول شدند . و میاسه از احوال سفر و تهایی
ومشققت های آیام جدانی می پرسید و مقداد یک یک را نقل نموده ، او
می گریست و این می خندهد . و درین سر زمین که منزلی بود خوش
آب و هوا به عیش و عشرت کامیاب و کامروا مدتی مانده از رنج راه
آسودند و تدارک آیام فراق نمودند . ولیکن عقد کردن و زفاف نمودن را
حسب المشروط قرار دادند ، که چون به قبیله رستند . آنچه جابر طلب
کرده بود به او تسلیم نموده عروسی نمایند .
ومقداد را آنچه برسر گذشته بود در قصیده ای طولانی به نظم
آورده . چون طویل الذیل بود ترجمه نشد . اگر کسی خواهد به اصل
رجوع نماید .

و چون از رنج راه آسودند و در فکر روانه شدن بودند که دیدند غباری
مرتفع شد و گردی پیدا گشت . و از میان گرد دو سوار نمودار شدند .
یکی بر اسب اشقر و دیگری بر فرس کوه پیکر . یکی را نورش زمین و
زمان فرو گرفته . دیگری چون ماه دو هفته . مقداد احتیاط نموده
زرهش را پوشیده و نیزه را بدست گرفته سر راه بریشان گرفت . آن
جوان ازو پرسید که تو کیستی و درین راه از چیستی ؟

(۲۹) گفت : منم مقداد بن اسود کندي با نیزه خطی و تیغ هندی . نام
و شان خود بگوئید . و راه عناد و فساد میتوئید . یا اسب و سلاح را
گذاشته به سلامت بروید ، پیش از آنکه در چنگ اسر اسیر شوید . آن
بانگی بروی زد که دل دربرش به طبیدن در آمده گفت : ای پسر ! بر
گرد که اجلت نزدیک شده و روز عیشت تاریک گشته .

مقداد چون آن صولت و هیبت را بدید ترسان ولزان گفت : من

انت ايها السيد الهمام والبطل الضرغام . كيسنی توای بزرگ باهست
و هيبيت و اي شير با شوکت وصولت ؟ گفت : منم کشنده مردان و فنا
کشنده شجاعان ، پرulan ميدان شجاعت را سردار ، کرار غير فرار
مظهر عجائب و مظهر غرائب ، ليث بنى غالب امير مؤمنان على اين
ابي طالب . پس حمله بر امير کرده اين رجز را خواند .
اصبر لضرب مهند و سنانی .

وانظر فعال فتی من الفتیان

اسقیک من کاس المنيه مسرعا
وتكون طعم الوحش والتعنان
حتی تكون کاس لايرتجى
تبکی عليك جماعة النسوان

ترجمه اش اگر خواهی این است :

بکن صبری به ضرب تیغ هندی و سنان من
به بين آنگه تو کردار جوانی از جوانان را
چشانم مر ترا جام هلاکت من بدان زودی
که گردی طعمة وحش و شوی مطعم ثعبان را
و تاگردی اسیری کان خلاصی نبودش *

فلک بر تو بگریاند همه خویشان و نسوان را
و امير عليه السلام حمله او را رد نموده برو حمله کرد و فرمود **

شعر :

* - نبودش هرگز صحيح است .

** - صحت انتساب این داستان به حضرت علی ، و نیز انتساب این شعر با مجله نیست . داستانیست و

چیزی بنام ایشان (دانش)

يا ايها العبد الذليل انا الفتى ولقد حفظت الفصال وسها نسال لهاتا
 اني على وابن عم محمد مردى الكهنة وفارس الفرسان
 علم الهدى ومطهر الاديان ابرز لحاك الله انك لا يسا
 في الدرع ثوب مذلة وهوان اليوم او ردك (٣٩) الحمام موجلا

و اريک كيف معارك الشجعان يعني اي مرد خوار * زبون تا امروز جدال مردان نديده اي به تو بنعمایم
 که مرد کیست وحرب چیست ومن کیستم و تو کیستی . شعر :
 ایا ذليل و زبون بنده ، آن جوان مردم که می کشم زیبی یکدیگر دلیران را
 منم على پسر عم مصطفی که ازو پدیده شد دینی کان ناسخ است ادیانرا
 تنت زپوست جدا باد زانکه پوشیدی بدست من تو بینی هلاک خود امروز
 بی مذلت و خواری زره ، مکن آنرا

بلی تو هیچ ندیدی جدال مردانرا و چون امیر عليه السلام رجز را خواند گفت : ای جوان مرد ؛ مرا چون
 جوانان دیگر و شجاعانی که دیده ای تا امروز ، میندار و مرا مثل دیگر
 شجاعان مشمار و اگر نجات خواهی ، سر خویش گیر و بسلامت برو .
 مقداد گفت : ای جوان ؛ تو نیز مرا حقیر میین وضعیف میندار و زبونم

* دراصل : خار

مدان و این گفتگو را بگذار. پس حضرت امیر علیه السلام برو نعره ای زد که دلش بطبید و
 برخود بلرزید و ترسان ولزان گریزان شده خود را به میاسه رسانید. و
 چون او را دید شرمش آمد که بگوید که گریخته و ترسیده ام . باز
 بسوی امیر المؤمنین علیه السلام برگشت و رجزی خواند که
 مضمونش این بود : چشیدن جام مرگ از دست دشمن رهیله بالاترین ای ایست شخصی
 بسی بدر زمرگیست آن حیاتی نه نیزه است یا باید
 که خاری و زبونی بار آرد
 پس حضرت امیر علیه السلام خندیده در جوابش خواند :
 الیوم طاب لنا البراز و انما خیر الوری اتنان مجتمعان
 فی (کف)ذا حصمامة وبکف ذا خطیمه كالنار ذات دخان
 ابرز فسوف ترى هز براضیغما
 ما مثله يوم الكربیله شان
 فاذا اردت تخلصاً ارجع الى
 رب کریم واحد منان
 واگر ترجمه این کلام معجز نظام خواهی ظاهرآ اینست می فرماید (۴۰)
 خوشگوار آید زبهر جنگ بیرون آمدن
 با کسی کو بهترین شخصی بود در کار زار
 در کف این نیع هندی وان دگریک در کفش
 نیزه خطی بود چون آتش دناله دار
 زود بیرون آکه تابینی تو شیر خشمگین
 آنچنان شیری که مانندش نباشد روزگار

گر خلاص خویش خواهی ای جوان بگذار شرک
 با خدا برگرد و ازمن بشنو و ایمان بیار
 و برو حمله کرد . که مقداد دانست که کشته می گردد . گریخته خود را
 به میاسه رسانید . و پهلوی او نشست و میاسه را تعجب آمده گفت : ای
 مقداد : تو خود را بر پانصد و هزار زدی و غالب آمدی . و دیروز در
 حضور من لشکری را شکستی والحال از یک جوان به این رسایی
 گریختی . اگر از جنگ او عاجزی سلاحت را به من ده ، تا پوشیده
 بروم و با این جوان نبرد نمایم . و تو در جای من بنشین و تماشاکن .
 مقداد به او گفت : ای جان من : بسر تو قسم که این جوان را در
 روی زمین مثل و مانند نیست . اگر بجذی می روم با آنکه فراق تو
 آتش در جانم می اندازد . اما در دست او کشته خواهم شد . این جوان
 علی این ابی طالب است پسر عمّ محمد که سید قریش است . و آوازه
 بزرگی او و شجاعت این در شرق و غرب افتاده است ، من چه باشم
 که صد مثل من اگر در برابر او روند یکی را زنده نخواهد گذاشت .
 واز گفتگوی میاسه غصب برو مستولی شده بار دیگر مرگ را به
 خود قرار داده در برابر آنحضرت آمد . درین وقت رگ هاشمی حضرت
 امیر علیه السلام در حرکت آمده . پیش حمله اش باز آمد ، کمر
 بندش را گرفته و از زینش جدا کرده ، او را بر هوا انداخته خواست
 بندوالفار در برگشتن بدونیعش کند . آن سواری که همراه حضرت بود
 یعنی حمزه عمش علیه رضوان الله . شفاعت (۴۱) نموده گفت : یا امیر
 صبر کن : شاید به اسلام در آید ، که جوانست و حیفم می آید که این
 قسم جوان کشته شود .

امیر علیه السلام کمر بندش را گرفته هر دو دستش را محکم
 بر یکدیگر بست . و چون میاسه مقداد را اسیر و دست بسته دید . از

گفته پشیمان شده ترسید که مقداد کشته شود . گربیان چاک کنان و
 لطمه بر روزنان و نوحه کنان دویده به خدمت حضرت آمده گفت : ای
 جوان : به این اسیر مهر بانی کن و بربن ضعیفه رحم فرما . و از مال و
 منال هر چه خواهی از من خون بهای او بستان . که من غریب و
 بیکسیم و دلم به او مایل است . و مدت ها در فراق او گریسته ام تا
 درین نزدیکی به من رسیده ، و اگر او کشته شود ، زندگی بر من حرام
 است . و یقین بدان که بی او زنده نخواهم ماندن . و می گریست و می
 زارید ، و نوحه می کرد ، و جزع می نمود ، و در اثنای گریستن شعری
 خواند که ترجمه اش این بود : *کمال بیله بیمه* ؟ *تسلاخ علاج آن آن*
 ای گرامی ترین خلق خدا *کمال بیله بیمه* *تسلاخ آن آن*
رحم کن بر من و غریبی من
 هودج و مال هر چه با من هست
 میدهم خون بهای و نیست سخن
 رد مکن (ای جوان خواهش من)
 بکرم از من ای امام زمن
 و چون امام علیه السلام گریه و زاری و جزع و بیقراری میاسه را
 دید و شعرش را شنید ، و سوز سینه و اشک دیده اش را مشاهده فرمود
 . مژده اش داده گفت : البشیری بخلاصه یعنی بشارت باد تو را به
 خلاصی مقداد . خاطرت را جمع دار که به جهت خاطر تو مقداد را
 نمیکشم . و چون میاسه را باور نمی آمد بار دیگر به جزع در آمده گفت
 ای سید و ای سرور ، و ای فارس میدان شجاعت و ای بهتر همه
 مردمان ! از روی مکرمت در کشتن مقداد تیزی و تندی منما ، که اگر او
 را کشته من هم خود را می کشم . لغزیدن از ما و بخشیدن از تو .
 باز آنحضرت او را تسلی داده دست مقداد (۴۲) را گرفته فرمود :

که یا مقداد؛ هل لک فی کلمة خفیفة فی اللسان ثقیلة فی المیزان .
 یعنی ای مقداد چه می گویی با کلمه ای که در زبان سبک است و در
 ترازوی اعمال سنگین است . اگر بگویی خون ترا نگه میدارد و مال
 ترا به تو باز می گرداند . مقداد گفت : بعد از آنکه بگویم مرا چه
 خواهد بود ؟ فرمود : که از آتش دوزخ خلاص می شوی به بهشت
 عنبر سرشت در می آیی ، ویکی از برادران ما خواهی بود . هر چه از
 برای ما باشد از برای تو خواهد بود . و هرچه بر تو باشد برماست .
 یعنی دوست تو دوست ماست و دشمن تو دشمن ماست . مقداد پرسید
 که آن کلمه کدامست ؟ امیر علیه السلام فرمود : که آن کلمة طيبة لا اله
 الا الله محمد رسول الله است . مقداد گفت دست دراز کن تابا تو بیعت
 کنم . و بگو تا بگویم ، که دلم سخت به این کلمه مایل شده ، حضرت
 امیر علیه السلام دستش را گشود و مقداد دست امیر علیه السلام را
 بوسیده دست داد و بیعت کرد و گفت : لا اله الا الله محمد رسول الله و
 از روی اخلاص تمام مسلمان شده سر بر زمین نهاد شکر الهی به
 تقدیم رسانید .

پس آنحضرت رویه میاسه کرده گفت : اگر خواهی که در دنیا و
 آخرت با مقداد باشی ، تو نیز این کلمه را از سر اخلاص بگو که شوهر
 مسلمان وزن کافر در شرع ما درست نیست . میاسه گفت : کدام دولت
 ازین بهتر که باشما و در دین شما باشم که دل مرا نیز این کلمه می
 کشد . او نیز به اخلاص کلمه گفت ، مسلمان شد . و امیر علیه
 السلام ایشان را وداع کرده گفت : به سلامت بروید بامال و منال خود ،
 ولیکن ای مقداد : بر تست که از خدا غافل نشوی و نعاز بجا آوری
 آری و زکوة مال بدھی . و هر گاه مصیبتي به تو رو آرد یا به بلایی
 گرفتار شوی این دعا را بخوانی که البته نجات می یابی . (۴۲) اللهم يا

غیاث المستغیثین و يا امان الخائفین و يا مجیر المستجیرین و يا مفرج عن المکر و بین و يا الله العالمین استلک بحق محمد الامین و آله الطیبین الطاهرین ان تفرج عنی وعن المؤمنین برحمتک يا ارحم الرحیمین .

و مقداد دعا را یاد گرفت و حضرت امیر میاسه را به او عقد کرده ایشان را دعا فرمود . وایشان نیز خوشدل و خوش حال حضرت را دعا کردند . و بر فراق و جدایی از آنحضرت گریان شدند . و مقداد با اهل و مال روانه شده و در وقت رفتن شعری چند می گفت و می رفت . معنیش این بود :

خدای جزای خیر دهاد آن سید و سروری و بزرگ قوم و مهتری را که مارا از ظلمت شرک خلاصی داد . و زنگ کفر از دل مازدود . وما را بدین حق هدایت فرمود . و آن سید قریش و سلاله هاشم است . علی این ابی طالب و غالب کل غالب بن عم محمد مصطفی و هادی راه هدی . و راه نمود ما را به خدائیکه هست آفرینشندۀ ارض وسما . وبعد از آن قطع منازل و طی مراحل می نمود . تا آنکه با آن عدت و شوکت داخل قبیله شد .

و چون جابر را خبر شد که مقداد آمده و میاسه را همراه دارد استقبال نمود . و به ظاهر اظهار بشاشت و شغف نموده پرسید که با آن جمع که میاسه را همراه داشتند چه کردی ؟ مقداد گفت : آنها را طعمه دد و دام صحرا کردم . و آنچه کردم به تن تنها کردم . چه فتنه و فساد داشتند و خاک در دیده مردمی و آدمیت می انباشتند . چون گوش به حرفم نمی کردند رسید به ایشان آنچه رسید . ولیکن از تو دور بود که بامن عهدی (۴۴) کردی و خلاف عهد و پیوند جایز داشتی . و مرا ندیده و عهد مرا نکرده انگاشتی .

جابر شروع به عذر خواهی کرده گفت : چون مدتی از وعده
 موعود گذشت و از تو خبری نیامد و مالک بن ریاح ، میاسه را خطبه
 نمود . ترسیدم که اگر دختر به او ندهم ، کار به قتال و جدال کشند .
 وایشان قبیله بزرگ اند و تاب مقارت ایشان نیارم . و چون شنیدم که
 سلامت آمده ای بر سلامت تو شکرها کرم . و تصدقات نمودم . بحمد
 الله که حق به حق دار رسید . اینک به تجهیز میاسه و مهیا کردن
 اسباب عروسی تو مشغول میشوم .
 مقداد هم به گمان اینکه آنچه می گوید از صمیم قلب می گوید و
 در تدارک تقصیر و عذر غدر و خلاف عهد می پوید . آنچه ازو طلبیده
 بود از مال خود جدا کرده به خانه جابر فرستاد ، بلکه زیاده بر آن هم
 چیزها ، از تحف و هدایا داد .
 و جابر به ظاهر در کار سازی عروسی بود ، و در باطن به غدر و
 چاپلوسی در ظاهر اسباب عروسی مقداد مهیا می ساخت . و در باطن
 نزد عشق با مالک بن ریاح و دامادی او می باخت . در ظاهر چنانکه با
 مقداد وعده کرده بود تمامی قبیله را از خورد و بزرگ طلبیده عیش می
 کرد و در باطن اسباب قتل مقداد سامان داده طیش می کرد . به ظاهر
 جام رواح به گردش در آورده شراب ناب برومی نمودند . و در باطن
 از برای کشتن او زهر می سودند . در ظاهر گوش بر نعمه مطرب و
 صدای ساز بودند . و در باطن تا مالک کی برسد گوش بر آواز بودند .
 در ظاهر گاه می می نوشید و گاه مستان بودند و در باطن با حیله و مکر
 همداستان بودند . در ظاهرش مدح می نمودند ، و در باطنش قدح می
 فرمودند ، به ظاهر در بانگ نوشانوش بودند ، به باطن تا دشمن او را
 دریابد ، (۴۵) خاموش بودند . به ظاهر مسرت می کردند ، و به باطن در
 فکر مضرت می بودند .

القصه در خفيه چيزی نوشته قاصدي دوانيدند که اى مالک ؟ زود
 تر با جمعيت تمام خود را برسان که دشمن ترا مشغول کرده ايم . که
 انتقام برادران ترا ازو کشیده نامزد ترا بدست تو دهيم که او مسلمان
 شده است . و ما ازو بizarيم . و اگرچه در ظاهر به عيش و عروسي
 مشغوليم ، از برای تو درکاريم . و به لات و هبل سوگند که ما غم
 برادران تو بيش از تو داريم . نه مياسه را به او الفتى است و نه مارا از تو
 کلفتى . هر چند زود تر توانى آمد بهتر .
 وچون قاصد خبر به مالک رسانيد . منادي را فرمود تا در قبيله ندا
 کرد . که واخوتاه وارجالاه يا آآل سنبس اجتمعوا : يعني اى واي
 برادران من چه شدند و مردان مرا چه برسر آمد . وچون مردم قبيله جمع
 شدند گفت . شنide اي برادران مرا چه به سر آمد و به چه خوارى
 کشته شدند . وainك پدر زن من جابر نوشته است که زود خود را
 برسانيد که دشمن شما را بدست شما دهم . تا او را واقرباي او را در
 عوض برادران وشجعان خود بکشيد . ومن الحال روانه ام هر که بامن
 رفاقت می کند ، قدم در راه نهد که بعد از انتقام ، عروسي و عيش و
 عشرت کرده شراب خوران و عيش کنان مراجعت خواهم نمود .
 وقوم و قبيله چون اين خبر را شنيدند . بيسیست هزار کس با او
 روانه قبيله کنده شدند . و به تعجیل تمام قطع منازل می کردند و شب
 (و) روز نمی آسودند . وچون خبر به جابر رسید که مالک به يك
 منزلی رسیده مقداد را به شراب مشغول کرده داروي بیخودی در
 شرابش کردند . وچون بیهوش و بیخبر شد ، دست و گردنش را به
 بندهای گران بسته ، زنجیر در پا و غل در گردن ، در پوست
 شترش پیچیده با گله گاوان و خرانش انداخته ده کس را (۴۶) برو
 موکل کردند که مبادا کسی ازو خبری بگيرد . و خود استقبال مالک

کرده او را با اعزاز و اکرام تمام داخل خانه کردند . و اول تعزیت و آخر تهییش بجا آوردند . و چون مالک را چشم بر جابر افتاد گفت :
 ای جابر ؛ نیکو نکردی که گذاشتی تا برادران مرا با یاران من به خواری کشتند . و زن مرا به دست دیگری دادی .
 جابر به لات و هبل سوگند خورد . که من از آمدن مقداد بی خبر بودم و اطلاعی بر جنگ او با یاران شما نداشتم و من از گرفتن دختر چه خبر داشتم ، و کی راضی بودم که میاسه را او تصرف کند و حال آنکه مسلمان شده است و از دین ما برگشته ، و با مسلمانان بیعت کرده و الحال دل خوشدار که او را بسته و خسته ام ، و بابنده گران گرفتار زندان است . شما امشب از رنج راه برآساید و به خوردن شراب ناب کوفت از سر بدر کنید . تا علی الصباح او را با خویشاں بدست شمادهم که به هر نحویکه خواهید از او انتقام کشید و لشکرش را به قبیله قسمت کرده .
 مالک را با مخصوصان در خانه خود به طعام و شراب و عیش و عشرت و غمزدایی دل محنت رسیده هجران کشیده شده از رنج راه و غم سوگ برادران پرسیدن گرفت . تا محنتش براحت و کلقتش به سرور تبدیل یافت .

و چون باد سحری بر مقداد وزیده بخود آمده ، دید که پا در زنجیر ، و دست در بند و غل در گردن است . بگرسست و گفت : داد و بیداد که با من غدر کرده و به مکر و حیله مرا بسته اند . ای کاش بند و زنجیر مرا دور می کردند و مرا نمی بستند . تا خون خود را از ایشان می گرفتم . ای دریغا ؟ که به مفت کشته شدم . ای جابر توانگ باد که مرا خسته و بسته بدست دشمن دادی . و در انتای گریه به خاطر اش آمد

که مولای من در وقت وداع مرا دعایی تعلیم کرده بود . (۷۷) گویا من
دانسته که مرا مصیبیتی پیش خواهد آمد . و به این قسم بلا تی مبتلا
خواهم گشت .

پس بنیاد جزع کرده ، خدا را بیاد نموده دعا خواندن گرفت ، و تیر
دعایش بر هدف اجابت آمده ، حضرت عزت عز ذکره ، چبرنیل امین
علیه السلام را در نیم شب به خدمت پیغمبر صلی الله علیه وآلہ فرستاد
که یا رسول خدا ؛ علی عالی * ترا سلام رسانیده و به تحيیت و
اکرام مخصوص ساخته می فرماید ، که بنده ما مقداد بن اسود را در
پوست شتر پیچیده می خواهند صبح به قتلش اقدام نمایند . و زنش را
به مالک ابن ریاح سنبسی دهند . درین شب در همین ساعت به منزل
بن عتمت علی ابن ابی طالب باید رفت . و او را روانه ساخت . که ما
او را در همین شب به آن قبیله می رسانیم . و اگر صبح به او برسد او
را زنده نخواهند گذاشت .

پس حضرت رسول الله صلی الله علیه و آلہ سرو پا بر هنر به متزل
امیر المؤمنین علیه السلام آمده ، امیر علیه السلام پرسید که یا رسول
الله ؟ چه چیز شما را درین نصف شب به اینجا فرستاده ؟ فرمود : که
ای علی ؛ برادرم ، چبرنیل از پیش ملک جلیل همین دم آمده تر اسلام
رسانیده و به تحيیت و اکرامت تخصیص داده و فرموده که شیعه تو
مقداد را در پوست شتر پیچیده می خواهند فردا صبح او را بکشند و
زنش را به مالک سنبسی دهند . اگر درین ساعت رسیدی و خلاصش
کردی خوب و الا سعی تو عیث خواهد شد .

پس امیر المؤمنین علیه السلام سلاح پوشیده اسب را زین نهاده

* مقصود ، خداوند است نه حضرت علی امیر علیه السلام .

مکمل شده به رخصعت رسول الله صلی اللہ علیہ آله حمزه را همراه
گرفته ، از حضرت رسول وداع شده قدم از مدینه بیرون نهاده . حضرت
به قدرت کامله رب العالمین زمین را در نور دیده ، در نیم ساعت به
قبیله کنده رسید (۴۸) به خانه ای که مقداد در آنجا مقید بوده آمد شنید
که می گردید و می گوید . ای مولای من : در کجاتی که مرا به این حال
بینی و مرا از دست دشمنان نجات دهی که دشمنی ایشان با من به
جهت دوستی با تو پسر عم تو و دین و مذهب تست . یا علی اگر
امشب مرا در یافتنی یافته والا هزار جان من فدای تو باد .
درین وقت حضرت امیر علیه السلام گفت : یا مقداد : اینک
رسیدم . خاطرت جمع دار ، که حق تعالی جل جلاله مرا به جهت
خلاصی تو فرستاده و زود باشد که بدانند اصحاب ضلالت و کفر که با
چه کسان غدر کرده اند . مقداد شکر الهی به تقدیم رسانیده ، گفت :
لا اله الا الله محمد رسول الله . و آن ده کس که موکل بودند شمشیرها
کشیده شروع به فریاد و غوغای کردند . حضرت امیر علیه السلام از
ایشان ابتدا کرده هر ده را کشته ، مقداد را از بند خلاص نموده گفت :
خود را به میاسه رسان و او را از غم و غصه نجات ده و خود به تمهد
مشغول شد . و حمزه سپر را در زیر سر نهاده به خواب رفت . تا آنکه
صبح روشن شده آنحضرت علیه السلام بانگ نماز گفت و بعد از نماز
چون جابر را خبر شده بود که مقداد از بند رهایی یافته ، منادی را
فرمود که در حی ندا کند . تا سواران حی جمع شوند .
راوی گوید که از قبیله کنده بیست هزار مردم جمع شدند . ومثل آن
(با) مالک سنبسی آمده بودند . چون مردم این دو قبیله مقداد را با
حمزه و علی علیه السلام مکمل و مسلح دیدند ، صفحه ها بر کشیدند و
منتظر جنگ و قتال و حرب و جدال ایستادند . و مالک و جابر مردم را

بر جنگ و حرب تجربه نمودند . و وعده ها می دادند . حضرت
 امیر علیه السلام ندا کرده فرمود : يا اهل الحی : هر که مرا شناسد ،
 شناسد ، و هر که نشناسد من او را به خود شناسا گردانم . من اسد الله
 الغالب و غالب کل غالب ، منم (۵) علی ابن ابی طالب .
 انا علی این عم المنتجب صافی الادیم والجین کالذهب
 اخ النبی العربی المنتسب
 متم علی پسر عم برگزیده حق
 نبی هاشمی ، آن سید استوده شیم
 مرا برادر خود خواند و نفس خویشم گفت
 اگر کسی نشاسد از آن چه باک و چه غم
 مرا ست روی و جبین چون طلای نورانی
 چنین حسب نه عرب راست درجهان نه عجم
 فنا کننده این کافران منم امروز
 مگر کسی که در آید به مذهب من و عَمَّ
 پس آن دو قبیله بیک بار بر امیر علیه السلام حمله نمودند و آن
 حضرت روی مبارک به حمزه و مقداد کرده فرمود : که شما هر دو بر
 جای خود قرار گیرید و قدرت الهی را تماشا کنید . و بریشان حمله
 نموده ، مقداد گوید والله دیدم که تیغش چون آتش که شعله می کشید ،
 و سرهامی افتاد و آنحضرت از طرفی می رفت و از طرفی بر می آمد و
 می گفت : انا سهمر الله الصائب ، انا سيف الله الضارب انا علی ابن

ابیطالب . من تیر رستنده خدایم شمشیر زننده خدایم
 پس خود را به جابر و مالک رسانیده اسلام بریشان عرضه کرد . و چون
 حمیت جاهلیت به موجب النار لا العار دلشان را تاریک کرده بود و
 صیقل نمی پذیرفت ، ابا نمودند و هر دو را تن از سر جدا کرده به یاران
 ملحق ساخت . با آنکه جابر پیش از آنکه کشته شود ، چون دید که
 سرها به چه طریق می افتد فرباد کرده قوم خود را گفت و نصیحت نمود
 که بگریزید که اگر شما گوسفندان بودید به این تندی کشته نمی شدید .
 حاصل کلام هر آنکه هر که کلمه گفت خلاصی یافت و هر که
 گریخت جان بدر برد ، و هر که ایستاد جانرا به مالک دوزخ سپرد . و تن
 را طعمه وحشیان و ددان آن صحراء نمود . راوی گوید که چون حضرت
 امیر علیه السلام (۵۱) با حمزه از مدینه قدم بیرون نهادند و چند قدم
 حرکت کردند شنیدند که گوینده ای می گوید آوازش رامی شنیدند و او
 را نمی دیدند . شعر :

سیروا لقد لقيتم الرشاد
 من عصبة لدينها جحاد
 انى انا من جن هذا الوارى
 متبعاً دين النبي الهاد

اعنى رسول الله ذا الايادى
 صلى عليه خالق العباد
 بشتايد تا جزا يابيد
 اى شما حافظان دين هدى
 من از جنیان این وادی
 گشته ام تابع رسول خدا

آن رسولیکه لطف او عام است
باد بروی زحق درود و ثنا
بس آن حضرت در جوابش فرمود که :
ستسمع اصحاب الضلالة والكفر
يصيرون نارا قدرا حرّ من الجمر
كما خالفوا خير الخلائق احمد
ولم يؤمنوا بالله والحسن والنشر
لقدو كل الله العظيم بارضه
ملائكة يطوى بها مهمة غفرى
الا اننا ناس من خير عصبة
ويسعدنا الله المهيمن بالنصر
ترجمه این کلام بلاغت نظام که آن بهترین جن و انس فرموده اینست :
زود باشد که بشنوی ای جن
حال و احوال اهل کفر و ضلال
که بدیشان رسید آن آتش
کاتش دوزخش بود چو زغال
وآنکه ایمان نیاورد به رسول
یا به قول وی از جواب و سؤال
حق کند امر بهرما که ملک
در نوردد زمین به استعجال
خلق را سروریم ما، وکند
مدد ما مهیمن متعال
راوی این قصه عجیب و حکایت غریب نقل کرده که چون جابر و اهل
او با مقداد غدر نموده او را دربند و زنجیر کشیدند میاسه به نزد تمیمه

مادر مقداد فرستاد که بدا ندو محمد مصطفی وعلی مرتضی را بگوید تا
به داد او برسند و مقداد را مشکل حل شود . باید که بزناقه باد رفتار
سوار شده به تعجیل هرچه تمامتر خود را به (۵۲) مدینه رسول رسانی .
گرفتاری مقداد و بند و زندان او را به تفصیل عرض نمائی که امیر
المؤمنین را زود تر بفرستد که او علاج این کار تواند کرد . وهر چند که
گمان ندارم تا رفتن تو و آمدن او مقداد را زنده گذاشته باشند . و تمیمه
برزناقه تن سوار شده توکل بر کریم کارساز کرده روانه مدینه شد .
چون مقداد از بند خلاص شده رفت به خدمت مادر که او را نوید
خلاصی خود دهد . مادر را ندید ، از میاسه خبر مادر پرسید ، گفت : در
آن ساعت که ترا در بند و زنجیر کشیدند بی تابانه چون مفری دیگر
نمی دانستم . او را به مدینه رسول خدمت پیغمبر صلوات الله علیه وآلہ
فرستادم .

مقداد سراسیمه بخدمت حضرت امیر علیه السلام آمده گفت : یا
امیر المؤمنین ؟ میاسه مادر پیر فقیر مرا به مدینه فرستاده به خدمت شما
و من از بیکسی و تنهایی او و دد و دام صحراء و عربان و دزدان بی
حیا می ترسم آیا چه برسرش آمده باشد ؟

حضرت امیر علیه السلام فرمود خاطرت را رنجه مدار که باری
تعالی جل ذکره به برکت اسلام راه را برو نزدیک گردانیده به سلامت
به خدمت رسول خودش رسانید . و حضرت او را به خلاصی مزده داد و
دلش خوش و خاطرش جمع گشت . و چون مقداد از امیر المؤمنین
شنید . حضرت را دعا کرده بر سلامت مادر سجدات شکر الهی به
تقدیم رسانید .

و چون مادر مقداد به مدینه رسیده احوال سید کاینات برسیده او را
به مسجد رسول الله صلی الله علیه وآلہ رهنمایی کردند . و در آن جا

ناقه اش را بر در مسجد یابسته به درون مسجد رفته ، رسول رب العالمین را سلام کرده حضرت جواب سلامش داده ازو پرسیدند که ای مادر مقداد ؛ چه خبر داری ؟ (۵۴) و در فراق پسر چون می گذرانی ؟ نالان و گریان گفت : ای رسول خدا ؛ اگر رخصت حرف زدن دریابم ، شرح حال مقداد و گرفتاری او بدست دشمن بیان نمایم .

حضرت رسالت پناه صلی الله علیه وآلہ فرمود که رخصت دادیم هر چه دلت خواهد بگو . تمیمه احوال خود را به تفصیل بیان و به فصاحت و بلاغت تمام در قصیده ای طولانی به نظم آورده . از آن روز یکه قریش داخل آن قبیله شدند و تا آن روز که مقداد در بند افتاد تعامی را بر حضرت رسول الله صلوات الله علیه وآلہ خواند و آن قصیده را بعد از اتمام حکایت انساء الله نقل خواهم نمود که اگر کسی میل شنیدن یا خواندش داشته باشد ، برکات ب اعتراض نکند که چرا نوشته . و اگر درین اثنا بنویسم نگویند که سخن درازی کرده ، القصه چون تمیمه فارغ شد . حضرت رسالت پناه صلی الله علیه وآلہ آن قصیده را تحسین نموده فرمود که ای تمیمه ؛ دلخوش دار و بر مقداد که من به امر رب العالمین پسر عم خود علی ابن ایطالب و عم خود حمزه را به جهت خلاصی او فرستادم و اکنون از بند خلاص شده است . وهیچ گونه تشویش ندارد . حمزه عم در خدمت او پسر عم علیه السلام با فرزندت خواهد آمد . تو اگر خواهی برو ، و اگر خواهی باش تا او بیاید .

مقداد چون از غم بند و زندان و قصه دشمنی یاران خلاصی یافت حضرت امیر المؤمنین علیه السلام ازو پرسید که ای مقداد ؛ به زیارت رسول الله صلی الله علیه وآلہ نمی آیی ؟ یا بر یکسی این قوم نظر داری و خواهی با ایشان باشی ؟ ای مقداد ؛ ترا مخیر ساختم ،

درین دوشق هر کدام را که خواهی اختیار کن . گفت : خدمت شما را نمی گذارم که پادشاهی عالم را جز دیدار آن سردار قریش نمی دانم . زیارت کنم و واجبات خود یاد گیرم، تا زنده باشم در سلک چاکران و بندگان شما باشم (۵۵) .

و خود در خدمت امیر المؤمنین روانه شده با تمام خدم و حشم . هرچه داشت از صامت و ناطق روانه مدینه شدند . و ساکن مدینه شدند مقداد به پای بوس سردار عالمیان آنحضرت ایستاد این چند بیت را انشاد نمود *

پس مقداد و میاسه و همراهان به مدینه آمدند و هیج خدش ای در ایمان شان بهم نرسید یکی دو نه ، بلکه همه شان در ایمان و دوستی ثانی ندارند . جمله آنها بعد از آنکه اموال و اسباب شان به مدینه رسید به فقرا و اصحاب صفة برادرانه قسمت کردند . به زیارت رسول خدا مشرف و به عبادت و خدا پرستی مشغول شدند .

مقداد در همه غزوات یعمبر همراه با سید رسول وهم رکاب علی علیه السلام بود . و میاسه که خود مؤمنه ای بود ، مثل شوهرش در راه حقانیت دین برق جد و جهد می نمود . و هرچه داشتند به فقرا بخش نمودند .

درین رساله (آنچه) از راوی منقول بود به قلم تحریر در آوردم اگر سهوی و نقصانی خوانندگان را به نظر می آید اصلاح نموده دعا طلب دارم . درود باد بر، محمد رسول الله صلی الله علیه وآلہ واجمعین .

نذارم هیچ گونه توشه راه

بجز لا تقنطوا من رحمة الله

* اصل اشعار و ترجمه آنها را به علت پرسیدگی کتاب نمی نوان خواند .

نجیب مایل هروی

یادداشت‌هایی بر هامش فهرست مشترک پاکستان

درجانی نوشته بودم که کتابشناسی بعنایت جان و روان است در کالبد تحقیق؛ و بهمین مناسبت است که از دیرباز اسباب آن - فهرست‌ها و کتابشناسی‌ها - در میان اصحاب کتاب و ارباب قلم رایج بوده و به صورتهای گونه گون در هر عصری از عصور مورد توجه و تأمل قرار گرفته. و سبب شده است که فهرست‌ها و کتابنامه‌هایی - گاه کلی و گروهی و گاه خصوصی و فردی - پدید آیده چندانکه در سده چهارم محمد بن اسحاق الندیم ورق (م ۳۷۸) بسیاری از کتب ملل و نحل، فلسفه و حکمت ... را در الفهرست شناسانید، و ابو ریحان بیرونی رساله‌ای در مؤلفات رازی پرداخت^(۱). و ابن عربی (م ۶۲۸) رساله‌ای در تعریف دویست و چهل و هشت نگاشته خود نگاشت^(۲). و عبدالغفور لاری (م ۹۱۲) فهرستی از مؤلفات عبدالرحمن جامی را عرضه کرد^(۳). و سخاوی-محمد بن عبدالرحمن - (م ۹۰۲) اعلان التوبیخ را در تعریف امہات مؤلفات پیشینیان ساخت. و حاج خلیفه (م ۱۰۶۷) کشف الظنون را در شناسانیدن مصنفات و نگاشته‌های فارسی و عربی از آغاز اسلام تاسده یازدهم پرداخت. و حسن ابن علی کشتوی یزدی (م ۱۲۹۷) „هدایة الأسماء فی بیان کتب العلماء“ را در شناسانی کتابها و نگاشته‌های شیعی تبویب کرد. و محمد جعفر منشی (طرب) در „جامع جعفری“ فهرست کتابهای مترجم را که به دستور محمد ولی میرزا انجام شده بود، عرضه کرد. و در پایان حاج شیخ آقا

بزرگ تهرانی الذریعه را درشناسانی کتب شیعه در ۲۹ جلد ساخت .
 سوای فهرستها و کتابنامه های مزبور ، مؤلفان کتب رجال از
 قدماء نیز در مواردی فهرستواره ای از مؤلفات صاحب ترجمه را آورده
 اند . چندانکه سام میرزا صفوی در „تحفه سامی“ مثلاً در ترجمة
 جامی از چهل و پنج نگاشته او یاد کرده ، و امیر شیر علیخان لودی در
 „مرآت الخیال“ در مواردی اسامی مؤلفات صاحب تراجم را فهرست
 وار آورده است . درمیان کتب تراجم و رجال ، که به فهرست تصنیفات
 و کتابشناسی و نسخه شناسی صاحب ترجمه توجه بسیار کرده است
 میرزا عبدالله افندی اصفهانی است صاحب „ریاض العلماء و حیاض
 الفضلاء“ ، که پس از وی شیوه او را خوانساری در „روضات الجنات“
 با شخصیتی تبعیّ کرده است .

پس از پیدا شدن کتابشناسان و متبعانی چون استوری ، بروکلمان
 اته ، ریو ، بلوش ، ستیوارت ، جوزف ایوانف ، مولوی عبدالمقتدر
 و عرضه شدن فهرستهای آنان ، توجه به ساختن و برداختن
 فهرستها و کتابشناسیها درمیان فارسی زبانان ، عربها و محققان و
 متبعان شبه قاره پاکستان و هند ، باحیثیت کلید تحقیقاتی عنوان شد و
 صدھا فهرستواره و کتابنامه از نسخه های خطی فارسی ، عربی و دیگر
 زبانهایی - که در فرهنگ اسلام کارکردی داشته اند - ساخته و
 برداخته شد بطوریکه امروزه تأليف „فهرست توصیفی فهرستهای
 نسخ خطی“ خود کتابی مفصل تواند شد که یکی از دوستان کتابشناس
 باهمکاری و مشورت من بنده بدان برداخته است .
 باری یکی از فهرست نگاران کتابشناس که با صمیمیت درخور
 به کتابشناسی و فهرست نویسی ، در عصر ما ، درمیان فارسی زبانان
 رخ نمود آقای احمد متزوی است که سوای همکاریهاش در تأليف و

تدوین فهرستهای نسخ خطی کتابخانه های ملی ملک، مجلس، و تألیف فهرست نسخ خطی فارسی کتابخانه گنج بخش، و تحریر و تسنید و تحشیه فهرست استوری (۴)؛ فهرست نسخه های خطی فارسی (۵) برای شناخت شخصیت علمی و تلاشهاي بی گيرش بسته است و کافی. اما سخته تر از آن، کتابشناسی است که طی چند سال اخیر، بااهتمام ایشان عرضه شده، به نام فهرست مشترک نسخه های خطی فارسی پاکستان (۶)، که نگارنده درین گفتار، ارزشی از ارزشهاي فراوان آن را باختصار می نمایانم، و نیز با اعتذار پاره ای از یادداشت‌هایم را - که پیرامن شناخت بهتر برخی از عنوانهای مذکور در آن فهرست، وبقصد تکمیل و تألیف «کتابشناسی تصوف و عرفان اسلامی» تهیه دیده ام - عنوان می کنم.

بیش از آن که به نمودن وجود اهمیت فهرست مشترک پردازم، لازم است که از گستره بهناور و درازی دامن آن سخنی بگوییم.

درنیمة دوم سال گذشته - ۱۳۶۳ خورشیدی - من بنده مجالی کوتاه یافتم تابه بررسی برگه های درهم «کتابشناسی تصوف و عرفان اسلامی» پردازم و طرح وسیوه کارم را آماده سازم و باعده ای از کتابشناسان و فهرست نگاران سالخورده در خصوص آن مشورت کنم.

بدین نیت، نسخه ای از طرح مزبور را برای مشورت با آقای سید عارف نوشاهی - به اسلام آباد فرستادم، گویا در همین موقع، آقای منزوی ازین نیت بنده آگاه شدند وس از تأمل بر طرح مزبور، طی نامه ای، نه تنها راههای را نمودند، بلکه نسخه ای از پیشگفتار پنجمین مجلد از فهرست مشترک را نیز - که تاکنون چاپ نشده است - غرض آگاهی بنده ضمیمه آن نامه کردند. نگاهی به این پیشگفتار - که متضمن یافته های تجربی ایشان است و از جمیت فهرست نگاری

نسخ خطی ارزنده - نه تنها مبین مراحل چندگانه ایست که در تهیه آن فهرست ، مورد توجه . مؤلف بوده ، نیز هم دامنه وسیع کار مؤلف و دستیارانش را نشان می دهد .

مؤلف در تدوین فهرست مشترک دو مرحله را مورد توجه قرار داده است : مرحله نخست تهیه برگه های توصیفی بوده که پس از رویت نسخه ، آمده می شده ، و متنضم مطالبی پیرامون کتابشناسی و نسخه شناسی - البته بصورت توصیفی - بوده است .

در مرحله دوم ، همچنانکه برگه های مزبور به قیاس و تطبیق برگرفته می شده ، و نسخه های مکرر با توجه به تاریخ کتاب آنها در پی هم قرار می گرفته ، از یکسو نکات مربوط به کتابشناسی و نسخه شناختی ممتاز می گردیده ، و از سوی دیگر ، برگه ها با فهرستهای چاپ شده تطبیق می شده است . درین مرحله ، برگه ها از جهت نسخه شناسی و مطالب کتابشناسی - اعم از نکاتی پیرامون نسخه بدست می آمده ، و نیز ذکر مآخذی که در آنها از مؤلف و کتابش مطالبی هست - کامل می شده و هر عنوانی در پوشش ای قرار می گرفته ، و با توجه به نام کتاب تنظیم می شده ، و سپس با توجه به موضوع ، پوشش ها برای حروفچینی به چاپخانه می رفته است .

مؤلف با توجه به شیوه مزبور ، چهار جلد فهرست مشترک را عرضه کرده ، ویس از آن به شیوه تنظیم تاریخی روی آورده است و جلد های پنجم و مابعد را به شیوه تاریخی عرضه می کند .
باری ، تهیه فهرست مشترک از نسخ خطی فارسی شبه قاره ، چه به شکل الفبائی موضوعی باشد و چه به طرز تاریخی موضوعی ، کاریست دشوار و حوصله طلب . دشواری کار از یکسو

در کثرت و زیادی عنوانها و نسخه های خطی موجود در پاکستان و هند است، زیرا همچنانکه می دانیم آن سرزمین از سده هفتم به بعد به گونه های متفاوت دارای مراکز علمی و تحقیقاتی به زبان فارسی بوده است و از اواخر سده نهم - خصوصاً سده دهم - از جهانی مرکز تجمع سخنوران و نویسندگان فارسی زبان قرار گرفته، و چونان آسیای صغیر، نه تنها بسیاری از نسخه های خطی بدانجا سرازیر شد، بل هزاران عنوان به علت این که در قرون متاخر در آن سرزمین کتابت و یا نسخه برداری شده است و بسبب آنکه از آفت رویداد های وحشتناک تاریخی چون حمله های غزان و ترکان و مغولان و خبری نبود، محفوظ مانده است. البته باید دیده وری و عدم عصیتی های حاکمان و سلاطین شبه قاره را نیز درکثرت و زیادی نسخ خطی موجود در شبه قاره نادیده نگیریم، خاصه آنگاه که سوزاندن مبلغی از کتابهای فلسفی و مذهبی و آثار مربوط به اسماعیلیان و کتابخانه های آنان را در ایران، توسط سلاله های تاریخی، چون غزنویان، مغولان و آل مظفر بیاد آوریم^(۷).

و از سوی دیگر عدم اطلاعات کافی محققان ایرانی است از مآثر علمی و فرهنگی زبان فارسی در هند و پاکستان، که پس از سلط بریتانیا بر شبه قاره، و از رسمیت افتادن زبان فارسی در آن سرزمین، کم اطلاعی مزبور تا سرحد بی اطلاعی پیش رفته است.

ناگفته نماند که بی اطلاعی ایرانیان نسبت به مآثر زبان و فرهنگ فارسی در شبه قاره، سوای دلایل سیاسی و دهها عامل اجتماعی و فرهنگی، دو دلیل بارز دیگر نیز دارد. یکی اینکه طرز و شیوه سخن فارسی در شبه قاره، نه تنها، در حوزه شعر و نظم، خصیصه های خاص پیدا کرد و سبب پیدائش سبک هندی در شعر

فارسی شد ، بل در فن نویسنده‌گی نیز ، نثر فارسی آن سرزمین از ویژگیهای خاص برخوردار بود که به گمان نگارندۀ ، این شیوه نثر فارسی را نیز ، باید به همان نام بخوانیم . به هر حال بی اعتنانی ذهن تبل شاعران بازگشتی از شعر سبک هندی ، اسباب بی توجهی به آثار منتشر شبه قاره را بدنبال داشت . این بی توجهی به مآثر زبان و فرهنگ فارسی هند و پاکستان - جز در چند مورد انگشت شمار و نادر که دو سه دهه اخیر روی نموده اند - بیشترینه محققان فارسی زبان ایران و افغانستان را در بر می گیرد ^(۸) که مسلماً در امر کتابشناسی نسخه‌های خطی آن سرزمین صعوبت و ثقلت ایجاد می کند .

دلیل دیگر - که بر دلیل نخست ، نیز ، اثر کاری و مؤثر داشته است و دارد - حیثیت اسطوره‌ای یافتن زبان فارسی است در پاکستان و هند ، چه پس از تسلط و غلبه سیاسی بر شبه قاره ، نه تنها کوشش‌های استعمار گرایانه فرهنگی انگلیسها سبب ضعف زبان فارسی و رونق یافتن زبان انگلیسی در آن سرزمین شد ، بلکه رسمیت یافتن زبان اردو و بعضی از لهجه‌های محلی نیز در بی رونقی فارسی و از رسمیت افتادن آن زبان در پاکستان و هند ، بی تأثیر نبود . علل مزبور سبب شد که پشتونه‌های سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی زبان فارسی ناتوان و نابود شد . عدم پیوندهای اساسی و بنیادی فرهنگی بین ایران ، پاکستان و هندوستان نیز علتی دیگر بود که باعث شد تا „ قند پارسی ” به .. بنگال „ نرسد و ... و در نتیجه زبان فارسی - نمی گوییم تحقیقات و مواد فرهنگی فارسی ^(۹) - از کار برد و رواج روزمره بیفتند؛ بطوریکه آن دسته از محققان هند و پاکستان که می توانند فارسی را با پختگی تمام بنویسند ،

بیشترینه تحقیقات علمی و فرهنگی مربوط به مائر زبان و فرهنگ فارسی را به اردو می نویسند و چون بیشتر محققان ایران، ساختهای دستوری زبان اردو را نمی دانند، در نتیجه از حاصل تحقیقات و تبعات مذکور بی اطلاع می مانند. باری مسأله کترت نسخه های موجود در پاکستان از یکسو، و اردو بودن مأخذ و مصادر تحقیقات محققان پاکستانی درخصوص مائر فرهنگ فارسی - خاصه آن دسته از آثاری که درشیه قاره ساخته و پرداخته شده است - از سوی دیگر، مسأله ای بوده که بطور طبیعی متوجه مؤلف دانشمند فهرست مشترک نسخه های خطی پاکستان بوده است: اما عقدة مسأله و مشکله مزبور همچنانکه به مدد تسلط مؤلف بر نکات کتابشناسی کتابهای شبه قاره گشوده شده، نیز هم گروهی از محققان و کتابشناسان پاکستان در گشایش گره مزبور مؤلف را همراهی و همکاری تام و تمام کرده اند، آن چنانکه مؤلف ارجمند ضمن آنکه اسمی همه همکاران مذکور را در مقدمه مجلد اول از فهرست مشترک آورده (۱۰)، گزاره نسخه شناسی و کتابشناسی آنان را نیز در ذیل نسخه ها به نام خود شان ثبت کرده، و از آنان به „نگارندگان واقعی فهرست مشترک“ تعبیر کرده اند (۱۱).

بی تردید همه همکاران آقای منزوی در تألیف فهرست مورد بحث، از عاشقان زبان و فرهنگ فارسی اند، و هریک از آنان سوای احاطه ای که بر فن فهرست نگاری دارند، صاحب نگاشته ها و کارهای علمی و تحقیقاتی نیز هستند. نگارنده این سطور با آثار چهار تن از همکاران مزبور آشنایی دارد که عبارتند از آقایان اختر راهی، محمد اقبال مجددی، سید عارف نوشاهی و محمد نذیر

رانجها ، که نه تنها نگاشته های کتابشناسانه آنان مورد استفاده آقای منزوی بوده ، بل در رؤیت و وارسی بسیاری از نسخ خطی فارسی پاکستان به غرض پیشبرد طرح فهرست مشترک - که به گمان نگارنده از شاهکارهای فهرست نگاری به زبان فارسی بشمار می رود - سفرها کرده اند و نکته ها یافته اند و آنها را در دسترس مؤلف صمیمی فهرست نامبرده گذارده اند ، که البته مؤلف نیز با نهایت صمیمیت تحقیقاتی - که ویژه اوست - یافته ها و نکته های آنان را بقید نام خودشان مقید کرده است ، جزا الله سعیه و سعیهم .
 باری : همچنانکه مذکور شد ، به پندار من بnde ، فهرست مشترک پاکستان از دقیقترین و ارزنده ترین فهرستهایی است که تاکنون پیرامون نسخه های خطی فارسی و نیز به زبان فارسی تألیف شده . مؤلف فاضل در دامن هر عنوان موضوعی ، به دو سوی کتابشناسی و نسخه شناسی توجه داده است . در بخش کتابشناسی ، سوای نام اصلی کتاب از نامهای فرعی - اعم از درست و نادرست آن - سخن گفته ، و از مؤلف در صورت لزوم و بمناسبت این که بنام است یا گمنام ، در حدی کافی باد کرده ، و نگاشته های دیگر او را در بسیاری از موارد ، فهرستوار نموده ، و پیرامون ساخت کتاب ، أبواب ، فصول و دیگر عنوانهای کتاب با دقت تمام ، مطالبی را ثبت کرده و ... و سرانجام امهات مأخذی را که پیرامون مؤلف و نگاشته هایش محققان را راهنمایی کند ، نشان داده است .

در بخش نسخه شناسی ، نیز به تمامی خصیصه های نسخه چون نوع خط ، سال کتابت ، کاتب ، کمال و یا نقص و تعداد اوراق و گاهی سطور نسخه ، توجه داده است . به این صورت مؤلف دانشمند ، فهرستش را از آن دسته فهرستهایی که منضم مشتی

نام کتاب و اسم مؤلف اند، فراتر برده، و با توجه به مطلب تو صیفی - تاریخی و ارجاعی - موضوعی در امر فهرست نگاری، فهرست مشترک را آن چنان ساخته که بی تردید می توان آن را یکی از منابع مسلم تحقیقاتی در خصوص معرفت رجال و مؤلفات فارسی قلمبند کرد.

گفتنی است که مؤلف در بخش کتابشناسی نسخه ها، بسیاری از نسخی را که در دسترس داشته، به تبع و بررسی برداشته، و نکته های تازه و ارزنده ای درمورد بسیاری از عنوانها، از داخل نسخه ها دستیاب کرده (۱۲) و با زبان فهرستی - که مؤلف بر این زبان تسلط استوار دارد - نکات مذبور را نقل کرده، که محققان را در تحقیق و تبع متون کهن و دیرینه فارسی امداد خواهد کرد، و چون مأخذی، معتبر و دست اول در زمینه تحقیق و تدقیق، مدنظر خواهد بود. درین مورد، مؤلف، همچنانکه به نقل مطالبی سودمند و تازه از درون نسخه ها اهتمام ورزیده، از تحقیقات پیشینیان نیز چشم نمی پوشد، و اگر احیاناً به مطلبی می رسد که یافته ها و قضاوتهای پیشین را نقض می کند، باصراحت بیان - که لازمه هر محقق دانشمندی چون ایشان است - آن مطلب را عنوان کرده. چندانکه، مثلاً، مرحوم سعید نفیسی (۱۳) از رساله ای سخن گفته به نام „مقاصد السالکین“ در ملفوظات سعد الدین حمویه، تأليف محمد بن احمد بن محمد، حالانکه نگاشته مذبور - همچنانکه آقای منزوی گفته اند (۱۴) - ملفوظات حمویه نیست، بلکه تأليفی است از محمد بن احمد، که بر پایه آموزش‌های خانقاہی پیرخود - سعد الدین - ساخته است (۱۵).

باری، اگر به جمیع محسن و فوائد این فهرست پردازیم، بی

تردید باید رساله ای ساخت ، نگارنده این بهره ازین گفتار را با ذکر
 نکته ای دیگر به پایان می برم وسیس می پردازم به ذکر پاره ای از
 یادداشت‌هایم که در هامش فهرست مورد بحث نگاشته ام .
 همچنانکه بین است ، رسم بر این بوده است که فهرست‌های
 مشترک - که باتوجه به مسأله توصیفی - ارجاعی و موضوعی -
 تاریخی فراهم می آیند ، در مواردی که برای مؤلف و فهرست نگار
 میسر نباشد ، بنای کار را بر فهرست‌های خصوصی چاپ شده ، می
 گذارد . از آنجا که تاکتون ، بنابر دلایلی ، کتابشناسی دقیق و کامل
 از نسخه های خطی فارسی نداریم ، بسیاری از فهرست‌های
 خصوصی ، خاصه آن دسته از فهارسی که بیست یا سی سال پیش
 فراهم آمده اند از نظرگاه کتابشناسی لا اقل در حد چهل درصد
 غلط و اشکال دارند . از اینرو چون بخواهیم که کتابشناسی
 پردازیم که عنوانها و کتابها از نظر زبانی و موضوعی ممتاز شوند
 ، باید شالوده کار را باتوجه به آن دسته از فهرست‌های پر غلط ،
 آماده سازیم . واگر نیز اضطراری باشد که بدانها متکی گردیم ، باید
 لا اقل عنوانهای مشکوک و گنگ فهرست‌های پیشین را با احتیاط
 پیذیریم ، و در صورت امکان ، به بررسی و رویت مجدد نسخه ها
 پردازیم . البته فهرست‌های که بیست یا سی سال قبل در پاکستان
 فراهم آمده ، از جهاتی ، بسیار منظم ، و نیز ارزشمند است ، اما به
 عنوانهای بسیار درهمان فهرستها رویاروی می شویم که
 یا شناسانیده نشده اند و یا از لحاظ زبانی نادرست معرفی شده اند و
 یا ...
 متأسفانه آقای منزوی - که تجربه تلحظ تکیه بر فهرست‌های
 پیشین را در فهرست نسخه های خطی فارسی کسب کرده بودند

(۱۶) نمی دانم به چه علت در تألیف فهرست مشترک به تجدید آن تجربه پرداخته اند . باری کتابشناسی برخی از عنوانها که مأخذ از فهرست مخطوطات شیرانی هست ، از جهات زیر نواقصی دارند :

(۱) پاره ای از عنوانها از لحاظ زبانی ممتاز نگردیده اند .

(۲) نگارندگان برخی از عنوانین شناساییده نشده اند ، البته برخی از عنوانهای ناشناخته شده فهرست نامبرده ، امروز شناخته شده اند .

(۳) نسخه شناسی نسخه ها ناقص است .

به عنوان نمونه از رساله برزخیه - که عکس نسخه مورد گفتگو نزد بنده هست - یاد می کنم که در „ مخطوطات شیرانی ”

(۱۷) به نام ترجمة رساله برزخیه از محی الدین ابن العربی (م ۶۳۸) دانسته شده است . در فهرست مشترک نیز رساله مذبور ، همان

گونه شناساییده شده با ارجاع به همان مأخذ و برزخیه های شاه نعمة الله ولی در نسخه های خطی فارسی (۱۸) حالانکه اولاً درمیان

آثار بلند و کوتاه ابن عربی کتاب و رساله ای به نام „ برزخیه ” نداریم و گویا رساله مذبور برقیزیده ای باشد از دیگر آثار او و ازین

مهمتر آنکه رساله مذبور اصلاً فارسی نیست بلکه عربی است با این سر آغاز : رساله برزخیه شیخ اکبر قدس الله سره . بسمله ،

الحمد لله الذي اخترع الأعيان ... وبعد فهذه نبذة تشتمل على بعض احكام دار البرزخ و ترتيب الانتقال إليه و منه ” (۱۹) .

آنچه گفتم کلیاتی بود در اهمیت و شیوه کار مؤلف فاضل در تألیف فهرست مورد بحث ، درین بهره ازین گفتار به برخی از عنوانهای آن توجه می دهم و یافته های خودم را متذکر می شوم ، البته نه همه آنها را ، بل به چند عنوان بسنده می کنم و موارد دیگر را در کتابشناسی عرفان و تصوف اسلامی یاد خواهم کرد .

(۱) ارشاد المریدین

آقای منزوی در بخش کتابشناسی عنوان مزبور نوشته اند:

ارشاد المریدین ، از کمال الدین حسین بن حسن خوارزمی ، شهید در ۸۲۸ یا ۱۴۳۵ هـ با ۶ - ۱۴۲۷ م . در دیباچه می گوید : بخواهش گروهی از طالبان و سالکان ، بنام ارشاد المریدین ، در چهار فصل ویک خاتمه نگاشتم . تخلص او ، حسینی » دوبار در دیباچه آمده است : توهمند گر عاشقی صبر بلکن - شنو ، بنده حسینی را دعا کن ... و در پایان فصل اول زنجیره طریقت خود را از بالا به پایین چنین می آورد : پیامبر (ص) ، حضرت علی (ع) ... میر سید علی همدانی ، شیخ اسحاق جیلانی ، میر عبدالله بروزش آبادی ، رشید الدین اسفرانی ، شاه علی بیدوازی ، شیخی و مرشدی شیخ حاجی محمد ، و از ایشان مؤلف این نسخه اعنی المفتقر حسین الغوارزمی .

در خاتمه تاریخ انجام ۵ ذیحجه ۹۲۵ هـ (که بایستی ۸۲۵ هـ ۱۴۲۲ م باشد) ، در قبة الاسلام خوارزم ، در موضع بیگ اداغی از بلده مذکور ، آمده است . به نثر آمیخته با نظم . فصل ۱ در موعظه به طالبان و عاشقان و سالکان ، ۲ - در بیان احتیاج به شیخ کامل و مکمل ، ۳ - اطوار سبعه و معرفت مقتدا ، ۴ - آداب و شرایط سلوک ، وهشت ادب : ۱ - حبس حواس ، ۲ - وضو ... ن . ک . ذریعه ۹ : ۲۵۱ ، دیوان حسین خوارزمی ، که گفته شده تخلص او ، حسین » است - منزوی ، دانشگاه ۲ : ۱۴۶ - ۱۵۰ ، « جواهر الأئمّة » زندگینامه و فهرست آثار ، که ازین اثر او یاد نشده - هدیة العارفین ۱ : ۳۱۵ - کشف الظنون ۲ : ۱۵۸ ، « مثنوی » که در آنجا تاریخ مرگ او پیرامون ۸۴۰ هـ آمده - حبیب

السیر ۳ : ۱۴۴ - نسخه ها ۲ : ۱۰ ۱۳ ، „آداب المریدین“ که در آنجا تاریخ نگارش ۸۳۵ هـ ۱ : ۱۴۳۲ آمده - نفیسی ۱ : ۲۴۲ ، زندگینامه و فهرست آثارش ، که این کتاب یادنشده - نسخه ها ۲ : ۱۰ ۱۳ نسخه ملک ۹۳۸۴ که در آنجا نیز تاریخ نگارش ۹۲۵ آمده است «(۲۰)».

از شجرة طریقت مؤلف که در نسخه آمده - پایان فصل اول - ونیز از تخلص مؤلف که „حسینی“ است نه „حسین“ ، محقق و منجز می گردد که مؤلف „ارشاد المریدین“ ، حسین خوارزمی مقتول در ۸۳۹ یا ۸۴۰ هجری که به سبب شرح مشتوی خود یعنی „جواهر الاسرار و زواهر الانوار“ درمیان فارسی زبانان معروف بوده نیست - بنگرید به همین گفتار ، ذیل „شرح فصوص الحكم“ بلکه نگارنده رساله مذکور کمال الدین حسین خوارزمی ، مؤسس سلسله حسینیه همدانیه است که معصوم علیشاه از آنها به نام ذهبیه آغتشاشیه یاد کرده (۲۱) ، و اشعار او را با تخلص „حسینی“ صبا و واصفی و شوشتاری آورده اند . وی در ۹۵۸ هجری در حلب فوت شده و در همانجا دفن گردیده ، و پس از چهار ماه جسد او را از حلب به دمشق منتقل کرده اند ، بطوری که بقول ابن عماد . هیچگونه تغیری نکرده بوده است (۲۲) .

باری همچنانکه نسخه های پاکستان از رساله „ارشاد المریدین“ نشان می دهند - و درست هم هست - مؤلف آن را در ۵ ذیحجه ۹۲۵ - و نه ۸۲۵ (؟) - در منزل شیخ محمد خواجه فرزند بدراتایی ساخته است . غیر از نسخه های پاکستان ، شش نسخه دیگر نیز از رساله مورد بحث موجود است : یکی در کتابخانه کوتینگن به شماره Pers. 44 (۲۳) ، و پنج نسخه دیگر که آقای منزوی در نسخه

های خطی فارسی (۲۴) یاد کرده و از حسین خوارزمی مقتول (۸۳۹)

دانسته اند.

این کمال الدین حسین خوارزمی، سوای، ارشاد المریدین، «ملفوظاتی نیز دارد که به نام „چهل مجلس“ (چهل مقوله) توسط کمال الدین محمود غجدوانی تحریر شده، و در مقاله چهارم، «مفتاح الطالبین» همو گنجانیده شده است. نسخه ای نیز ازین مجالس بصورت مستقل داریم که آن را به نام چهل مجلس شناسانیده اند (۲۵) که همان مقولات چهل گانه، «مفتاح الطالبین» است.

نیز سوای، «مفتاح الطالبین» که در احوال، اقوال و مناقب حسین خوارزمی (م ۹۵۸) در دست است، رساله ای دیگر در همین زمینه به نام، «جاده العاشقین» داریم که برگرفته شده از، «مفتاح الطالبین» است اما با اضافات و نکات بسیار ارزشمند ای که در مفتاح مذکور نیامده، از شریف الدین حسین فرزند کمال الدین حسین خوارزمی (م ۹۵۸) (۲۶).

(۲) اصطلاحات صوفیان

در مجلد سوم، صفحه ۱۲۷۶ فهرست مشترک از رساله ای یاد شده است به نام، «اصطلاحات صوفیان» با سربندهای طارقه، که نسخه دیگر آن به همین عنوان در فهرست نسخه های خطی فارسی (۲۷) نیز آمده است.

عنوان مذبور رساله ایست در تفسیر مصطلحات استعاری (سمبولیک) صوفیه، که نسخه های متعددی از آن در دست است، و کامل ترین نسخه آن در کتابخانه دانشکده الهیات مشهد (۲۸)

نگهداری می شود و دارای بیست طارقه ، است . نام اصلی این رساله „ طوارق ” است جمع طارق نه طارق ، که در آن از عطار نیشاپوری و تفسیر یعقوب کشانی (ولایتی در ماوراء النهر) یاد شده است .

مؤلف رساله مورد بحث خواجه‌شمس (الدین) غلام محمد گو یا از دانشمندان سده دهم هجریست . وی غیر از طوارق ، رساله ای نیز در حالات و مقامات صوفیه دارد به نام بوارق ، که درین یکی از خودش چنین یاد کرده است :

فقیری حقیری ، غریبی کربیی
ضعیفی نحیفی ، حریفی غریبی
ملقب بشمس و محمد به نام
علم خواجه‌گی اهل دل را غلام

(۳) مناهج الطالبین و مسالک الصادقین

دانره المعارفی است عرفانی که بین سالهای ۶۹۵ - ۷۲۸ ساخته شده است . ازین کتاب تاکنون سه نسخه شناسانیده اند (۲۹) که یکی از آنها نسخه پرسور منظور الحق صدیقی است که در فهرست مشترک آمده . تاریخ کتابت این نسخه ۸۰۵ هجریست نه ۸۲۵ که در فهرست نامبرده ، گزارش شده . نسخه مذکور هر چند حدود پنجاه سال پس از نسخه قونیه (ش ۱۷۳۳) کتابت شده ، ولی ترقیمه نسخه ، و نیز متن نسخه بقياس با نسخه قونیه ، می نمایاند که از روی نسخه اصل مؤلف نشته شده است .

اسم مؤلف در نسخه آقای صدیقی „ محمود بن سعد الله الاصفهانی ” ثبت شده ، و گویا در نسخه لیدن بصورت کاملتر -

نجم الدین محمود بن سعد الله بن محمد بن محمود اصفهانی آمده است (۳۰) نگارنده محمود بن سعد الله را نمی شناسم و در کتابشناسیها و تذکره ها و کتب رجالی عصری از او اثری نیافتم؛ أما حاج خلیفه (۳۱) نسخه ای ازین کتاب را دیده، و درباره مؤلف آن نوشه است: „مناهج الطالبین - فارسی للسید محمد بخاری المتوفی سنہ (?) رتبه علی مقدمه و عشرة ابواب : المقدمه فی تمهید الكتاب ، الباب الأول فی الاعتقاد ، الثانی فی التقوی ... العاشر فی العلم و العمل ..“ گفتگی است که زبان این کتاب، بیش از آنکه به زبان رایج اصفهان در سده هشتم بخواند، با گونه فارسی بخارا نزدیکتر است از اینرو نگارنده می پندارد که اولاً محتمل است که مؤلف بخاری الأصل بوده و بر اثر حمله مغول همانند صدھا خانواده دیگر که از خراسان کوچیده بودند، خانواده او نیز کوچیده باشندو به فارس آمده و در اصفهان مسکن گزیده باشند. ثانیاً اینکه به احتمال قریب به یقین، اسم او محمد بوده، زیرا که بنا بر رسم پیشینیان اسم پسر را به اسم پدر بزرگ وی می خواندند. اگر این پندار درست باشد، می توان نظر حاج خلیفه را با ترقیمة نسخه های پاکستان و لیدن وفق داد.

(۴) نوریه *

رساله ایست از علاء الدوله سمنانی که دو نسخه از آن رساله در

* در آخرین مرحله چاپ، یادداشتی از طرف نگارنده این نقد به دفتر دانش رسیده است بدین

مضمون: عنوان „نوریه“ را از نقد مزبور حذف کنید، زیرا نسبت به قضاوت خود در مورد

نسخه های نوریه شک و تردید پیدا کرده ام و هم اکنون حوصله و مجال بازنگری یکسری

یادداشتی ای مربوط را ندارم.

کتابخانه گنج بخش موجود است. مؤلف دانشمند فهرست مشترک نسخه شماره (۴۴۰۹) گنج بخش را شناساییده اند (۳۲) ولی نسخه شماره (۴۴۸۴) همان کتابخانه را به علت آنکه چندین سطر از مقدمه را ندارد به نام „نوریه از مؤلفی ناشناخته“، معرفی کرده اند (۳۳)، حالانکه این نسخه نیز همان نوریه سمنانی است. آغاز نسخه نوریه ناشناخته را در فهرست مشترک بنگردید و قیاس کنید با عبارت نسخه (۴۴۰۹) گنج بخش که پس از مقدمه آمده است: „بدان ای عزیز نور الله قلبک بالانوار القدسیة که بحقیقت نور چیزی را گویند که او خود را بیند و داند“ (۳۴).

(۵) جامع السائرین :
رساله مذبور به عنوان ترجمه ای از منازل السائرین پیر هری شناساییده شده است. این رساله را در آغاز آقای دکتر بشیر حسین اشتباهآ به این صورت شناساند (۳۵) و با همان صورت نادرست و به استناد فهرست بشیر حسین، در فهرست مشترک ترجمه ای از „منازل السائرین“ بشمار رفته است، حالانکه رساله مذبور نه „منازل السائرین“ خواجه عبدالله انصاری هرویست و نه ترجمه آن، بلکه „صد میدان“ اوست که در اصل پارسی بوده است (۳۶).

(۶) چهل مجلس
ملفوظات شیخ علاء الدوّله سمنانی (م ۷۳۶هـ) است که بین عییدین - گویا بین سالهای ۷۲۴-۷۳۶ یا چند سالی بیش ازین (۳۷) - به وسیله امیر اقبالشاه بن سابق سجستانی که از خانواده میران سیستان بوده، تحریر شده است (۳۸) این رساله در مأخذ کهن و بتبع

آنها در مآخذ متاخر هانند .. روضات الجنات .. کربلائی و طرائق الحقائق .. معصوم علیشاه به نام .. رساله اقبالیه .. خوانده شده است نه چهل مجلس (۳۹) .
 باری نکته ای که با ارتباط چهل مجلس و تعریف آن در فهرست مشترک دارم ، اینست که در بین نسخ مولوی محمد شفیع دو نسخه موجود است که در فهرست کتابهای وی به نامهای .. چهل مجلس .. و .. ملفوظات سمنانی .. معرفی شده است (۴۰) که مضامین و مطالب آن را بشیر حسین در فهرست خود آورده ، و جدایی آن دو نسخه را ازین نظر دقیقاً مشخص کرده ، و نوشته است که .. این رساله غیر از آنست که زیر شماره ۳۱۲ معرفی شده (۴۱) ، هر چند که در نام محرران و نگارندگان آن دو نسخه اشتباه کرده ، بطوريکه هر دو نسخه را از کارهای امیر اقبال سیستانی برگرفته و امیر اقبال را با سید جلال الدین بخاری معروف به مخدوم جهانیان جهانگشت (م ۷۸۵) یکی دانسته ، أما آقای منزوی در فهرست مشترک آن دو نسخه را - با ذکر همان جدایی در مضامین - ذیل یک عنوان آورده است (۴۲) ، درحالی که نسخه شماره ۳۱۲ (۴۳) کتابخانه مرحوم شفیع که در فهرست مشترک ، ذیل شماره (۷۶۴۵) آمده است چهل مجلس - که معادل رساله اقبالیه باشد - نیست و باید چیزی دیگر باشد - نگارنده درباره رساله مذبور که با عبارت .. بسم الله المجلس الاول في فضيلة التسمية ، المجلس الثاني في الايمان (۴۴) آغاز شده است ، بر اساس برخی مدارک می پندارم که :
 تردیدی نیست که پاره ای از ملفوظات و امالی علاء الدولة سمنانی را مرید پرنفوذ او - امیر اقبال - در زمان حیات گوینده ، تحریر کرده و از نظر او گذرانیده است (۴۵) . نیز شکی نیست که این

رساله تا دوره متأخر به نام „رساله اقبالیه“ یاد می شده است : بنابرین نسخه شماره (۳۱۳) فهرست مخطوطات شفیع (نسخه ۶۴۵ فهرست مشترک) که با سر فصلهای „المجلس الاول ، المجلس الثاني ... الخ) موجود است و مطالب آن با رساله اقبالیه فرق دارد ، چیست ؟

من بندۀ می پندارم : در صورتیکه این رساله نیز متنضمن ملفوظات و گفتار های سمنانی باشد ، باحتمال قریب به یقین « رساله فوائد » است که امیر اقبال در پایان چهل مجلس ، ساختن و پرداختن آن را وعده داده ، به این صورت : „... بعد ازین دخول ایام خلوت است و ترتیب مجالس متعدد بود ، آنچه بعد از عید اضحی ثبت شود ، آن را „فوائد“ نام نهاده شد هر چه از لفظ مبارک او (که) استماع افتاده ، در هر تاریخ که باشد ، به خاطر آید ، نوشته شود ان شاء الله ، و بر رأی انور عرضه داشته آید و آنچه به خط مبارک او نیز دیده شود در „فوائد جدید“ ، غیر از رسائل ، ترتیب کرده آید „(۴۵) .

اما این نکته نیز قابل توجه است که در مجموعه آثار سمنانی که نسخه قدیم و کامل آن در کتابخانه دارالکتب قاهره به شماره (۱۱ - م مجامیع فارسی) موجود است اوراق (۲۴۸ - ۳۱۰) را رساله ای تشکیل می دهد به نام „فوائد“ که مشتمل بر فوائد صوفیانه است که سمنانی برای شیخ علی مصری (۴۶) عنوان کرده و یکی از مریدان او به نام محمد بن ابراهیم ، معروف به عبدالغفور سمنانی در سال ۷۸۷ آن مطالب را تحریر کرده و فراهم آورده است (۴۷) . البته وجود این رساله که مطالب آن در خطاب با علی مصری گفته شده است ، اسباب رد فوائد امیر اقبال را فراهم نمی آورد ، ولی پذیرفتن

اینکه رساله مورد بحث آیا همان فوائد امیر اقبال است نیاز به بررسی نسخه وسیک نگارش آن، و نیز قیاس زبان آن با زبان چهل مجلس (رساله اقبالیه) دارد.^{۴۷}

و اما آنکه آقای بشیر حسین نگارنده آن رساله را سید جلال الدین بخاری معروف به مخدوم جهانیان جهانگشت دانسته و آقای منزوی نیز، سخن او را با تردیدی رد آمیز در فهرست مشترک آورده است، نظریست که قرین صواب و مستند به اسناد نمی تواند باشد، هر چند که مخدوم جهانیان جهانگشت (م ۸۷۵) سفر هایی به خراسان داشته، و نیز یکی از مریدان علاء الدوله سمنانی - یعنی سید اشرف جهانگیر سمنانی - پس از درک محضر سمنانی، دست ارادت به سید جلال بخاری داده است^{۴۸}، ولکن هیچ گونه سندی که مارا به نظر بشیر حسین دلالت کند، در دست نیست، خاصه که ایشان، نسخه چهل مجلس (رساله اقبالیه) را نیز به همو نسبت داده، وکلاً امیر اقبال را فقط بالقب او که „جلال الدین“ است مدنظر گرفته و با جلال الدین - مخدوم جهانیان جهانگشت - یکی دانسته^{۴۹}.

(۷) ترجمة عوارف المعارف

در فهرست مشترک از ترجمه ناشناخته، „عوارف المعارف“، شهاب الدین عمر سهروردی (م ۶۳۲) گزارش شده^{۵۰} که به علت افتادگی از آغاز نسخه، آن ترجمه ناشناخته مانده است عبارتی که از آغاز موجود نسخه ترجمة مزبور بدست داده شده، منجز می کند که ترجمة مزبور از آن اسماعیل فرزند عبد المؤمن فرزند عبدالجلیل فرزند ابی منصور ماشاده از دانشمندان سده هفتم هجری است که

تمامی دیباچه مترجم و ترجمه مفتتح کتاب و فهرست ابواب
بقدر شانزده سطر از باب اول - براساس نسخه مراد محمد بخاری -
در نسخه خیرپور که در فهرست مشترک به شماره (۹۱۶۰) ذکر
شده، افتاده است. این بیت ترجمه مزبور را پس از افتادگی مذکور،
با آغاز موجود نسخه ترجمه ناشناخته مورد بحث از „عوارف
المعارف“ قیاس کنید:

در سر مکن هوس را مازار هیج کس را

ترسم که این نفس را، جویی و در نیابی

(۷) شرح فصوص الحکم خوارزمی

آقای منزوی پیرامون عنوان مزبور نوشته اند::، شرحی است

از ناشناس، شاید کمال الدین حسین خوارزمی م (۵۱)، (۸۴۰) در اینکه

شرح نامبرده از تاج الدین حسین خوارزمی است - نه کمال الدین -

هیج تردیدی نیست . وجود بسیاری از اشعار حسین خوارزمی درین

شرح ، باخلاص «حسین» که هم در دیوان او وهم در «ینبوع

الأسرار» و نیز هم در «جواهر الأسرار» او آمده از یکسو ، ارجاع

به شرح مثنوی خود ، و استشهاد به اشعار خواجه ابوالوفا - بدآن

گونه که خواجه ویر اوست - از سوی دیگر (۵۲)، ومضاف بر آنها

همگونی و تشابه سبک انشاء و نویسنده میان «جواهر الأسرار»

، و «ینبوع الأسرار» باشرح فصوص ، جای شکی باقی نمی ماند در

اینکه شرح فصوص الحکم مورد بحث از مؤلفات حسین خوارزمی

مقتول ۸۳۹ هجریست . شارح ، این شرح را بین سالهای ۸۲۵ -

۸۳۸ ، یا کمی بیش از ۸۳۸ ساخته است . در اینکه آیا شرح مزبور

از شروح مستقل فصوص الحکم هست و آیا مقدمات شارح از یافته

ها و پرداخته های خود اوست یا اینکه مقدمات و نیز شرح متن ، ترجمه گونه ایست از شرح فصوص الحکم داود قبصیری ؛ نگارنده در مقدمه خود بر شرح فصوص الحکم مزبور بتفصیل سخن گفته ام و در اینجا سخن را بدرازا نمی کشم ، اما لازم می دانم که به دو نکته اشاره ای مختصر بکنم :

اولاً اینکه از شرح مورد بحث چهار نسخه موجود است : یکی همین نسخه گنج بخش ، دو دیگر نسخه دارالکتب قاهره که در فهرست طرازی و فهرست منزوی (۵۲) ، ناشناخته مانده است ، سدیگر نسخه شماره (۹۵۱۶) کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران ، و چهارم نسخه کتابخانه تونک در هندوستان ، که گویا نام نگارنده در کلفون نسخه میر سید حسین خوارزمی آمده است (۵۳) .

ثانیاً مسأله لقب حسین خوارزمی مقتول ۸۳۹ هجریست که چون جامی (م ۸۹۸) با وجود آنکه روزگار او را درک کرده ، وقطععاً از قضبه محکمه او در هرات ، در زمان شاهرخ (۸۵۰ - ۸۰۷) مطلع بوده و هنگام شهادت خوارزمی ، بیست و سه سال داشته ، گویا بجهت بدیینی عده ای از متمکنان عصری و نه بجهت مذهبی ، از ذکر او در „نفحات الانس“ احتراز کرده ، و سپس آن تذکره نگاران بر اثر اختلاطی که میان سرگذشت‌نامه او و همشهری همنامش یعنی کمال الدین حسین خوارزمی (م ۹۵۷) پیش آمده است از او بالقب „کمال الدین“ یاد کرده اند و در جمیع نگاشته های معاصران و نیز پشت جلد های آثار منتشر شده او مانند „ینبوع الاسرار“ و .. „جواهر الاسرار“ با همین لقب از او سخن گفته اند ، حالانکه در مأخذ عصری - یعنی نگاشته های نیمة اول از سده نهم - لقب او را .. „تاج الدین“ یاد کرده اند نه .. کمال الدین .. از جمله این مأخذ

یکی مجموعه ارزشمند فرائد غیاثی است از یوسف اهل ، که در آن دو نامه از حسین خوارزمی مورد بحث را آورده است : یکی نامه ایست که „سلطان شیوخ الاسلام مولی العلماء فی الانام تاج الحق والدین حسین الخوارزمی متبع الله المسلمين“^(۵۴) از خوارزم به جام در جواب مذکور به فصیح الدین فرستاده ، و دو دیگر نامه ایست از خوارزمی مذکور به فصیح الدین لازی که در پیشانی این نامه نیز ، لقب او „تاج الملة والدین“^(۵۵) آمده است.

(۹) ترجمه رساله محیی الدین

رساله مترجم از نگاشته های ابن عربی (م ۶۳۸) در دست است که نسخه ای از آن در فهرست مشترک^(۵۶) با نام مذکور و با ترجمه شاه داعی شیرازی (م ۸۶۹) شناسانیده شده . نسخه ای نیز ازین رساله در کتابخانه آقای اصغر مهدوی به شماره (۲۵۹ / ۱۵) در تهران هست با اندک افتادگی از آغاز ، که آن را آقای علی شیخ الاسلامی ، بدون شناختن نام مترجم با نام „رساله ای از محیی الدین عربی به یکی از مریدان خود“ در تهران چاپ کرده است.^(۵۷) همچنانکه مذکور شد ، ترجمان این رساله شاه داعی شیرازی است که رساله مورد بحث را با تصرفاتی در فصول و اصول آن فارسی کرده ، و أما اصل عربی این رساله مسماست به „حقیقتة الحقائق“^(۵۸) ، در هشت فصل ، و هر فصل در چند اصل که دو نسخه از متن عربی یادشده در کتابخانه های ملی ملک والهیات تهران موجود است.^(۵۹)

(۱۰) معراجنامه

در فهرست مشترک (۲: ۹۸۷) از معراجنامه ابن سینا یاد شده ،

و ضمن آنکه آقای منزوی به بیشترینه تحقیقات پیرامون آن رساله ارجاع داده ، طبق معمول آن را از آثار منسوب به این سینا خوانده است .
 باری ، پس از آنکه شادروان استاد مجتبی مینوی ، نسخه مراد محمد بخاری از معراجنامه را رؤیت کردند و بر مبنای ترقیمه آن نسخه ، رساله مزبور را به ابو المظفر منصور بن اردشیر عبادی (م ۵۶۷) نسبت دادند . محققان معاصر با آنکه مسیوق به دلایل استوار آقای صدیقی - مبنی بر اینکه معراجنامه مورد بحث از آن ابن سینا است . بوده اند ، در بیشترینه نوشته هایشان بر اساس ترقیمه یک نسخه از آن رساله وهیچگونه ملاک و سندی معتبر ، آن را از نگاشته های عبادی مروزی بشمار آورده اند (۶۰) .
 در اینکه معراجنامه یک مقدمه ای و سه فصلی از مؤلفات عبادی باشد ، نگارنده هیچگونه سندی معتبر ، جز ترقیمه نسخه مراد بخاری تیافنه ام ، در حالیکه دلایل بسیاری - اعم از نکته های کتابشناسی و نسخه شناسی - در دست است که تألیف آن رساله را توسط ابن سینا ثابت می کند . بسیاری ازین دلایل را پیش ازین گفته اند : أما من بنده درین خصوص به سندی دست یافته ام که جدود هفتصد سال پیش نوشته شده ، و آن کتابی است مفصل و بسیار پُر مطلب ، در زمینه فلسفه نظری و عملی و سیاست مدن و تدبیر منزل و یک دوره عرفان و تصوف اسلامی ، به شیوه ابن عربی و اصحابش ، به نام « مجمع البحرين » ، از شمس الدین ابراهیم ابرقوهی ، متخلف به « محتسب » (۶۱) که میان سالهای ۷۱۱-۷۱۴ هجری ساخته است . مؤلف کتاب مذکور در مبحث معراج جسمانی و روحانی ، معراجنامه شیخ الرئیس ابن سینا را در دست

داشته و آن را پس از تهذیب ، تحریری مطابق پستندی های زبانی و عرفانی روزگار کرده و در کتابش گنجانیده است . به عین عبارات ابرقوهی درین مورد توجه بفرمایید :، و أما مو ازنه میان معراج روح و جسم ، ومعراج روح مجرد که آن را معقول گویند ، چون درین باب رساله ها نوشته اند ، و در شهور سنه تسع و سیعماهه دوستی که حقوق دیرینه مؤکد داشت ، رساله معراج شیخ رئیس بیش این ضعیف آورد و بغایت سقیم و نامفهوم بود و برسر آن التماس تلخیص و تفهم مکرر می گردانید ، ایجاب ملتمنس او را واجب چنان دانست که خلاصه مضمون آن به عبارتی مفهوم و مطابق معتقد اهل تصوف بیان کند و معانی آن رساله به وجهی مقرر گرداند که به اکثر فهم ها نزدیک باشد و از جحود و انکار دور .^(۶۱)

پس ازین معراجنامه ابن سینا را با دقتی تمام و با عبارات سخته واستوار تحریری نو کرده ، و در پایان آن گفته است : ، ای نفس تا اینجا مضمون سخنان شیخ رئیس بود که بطريق تلخیص بیان کرد ^(۶۲) باری بر نگارنده این سطور ، پس از تدقیق در خصوص مطالب معراجنامه ابن سینا و قیاس آن با تحریر ابرقوهی ، هیچ شکی نماند در اینکه : معراجنامه ای که با ساختمان یک مقدمه و سه فصل هست ، با استناد به این سند کهن ، از آن ابن سینا است ؟ والبته استبعادی ندارد که بر اثر اثبات این نکته ، بگوییم عبادی مروزی ، معراجنامه نداشته است . زیرا باحتمال زیاد او نیز معراجنامه ای پرداخته ، و گویا پس از نیمة اول از سده هشتم ، نسخه های این نگاشته اش همانند دیگر آثار کوتاه و بلند او که بسیار کم نسخه ، و گاه منحصر به یک نسخه است ، از شهرت و رواج افتاده ، و میان ، „ معراجیة ” او و ، „ معراجنامه ” ابن سینا بهم

آمیختگی و اختلاط دست داده است . به نظر نگارنده کثرت و زیادی نسخه های معراجنامه با ساختمان یک مقدمه و سه فصل نیز می تواند ، دلیلی باشد بر اینکه رساله مزبور از آن ابن سیناست .

★ ★ ★

بهر تقدیر گفتارم را پیرامون فهرست مشترک نسخه های خطی فارسی پاکستان - که به همت والای کتابشناس روش روان آقای احمد منزوی و همکاران محقق و دانشمند ایشان در پاکستان فراهم آمده است - بیش ازین تفصیل نمی دهم و آرزو می کنم که روزی فهرستهایی ، همسان فهرست مشترک پاکستان ، پیرامون مخطوطات فارسی کشور های افغانستان ، هندوستان ، روسیه شور روی و ترکیه ساخته و پرداخته شود و از پس آن فهرست مشترک تاریخی - موضوعی و توصیفی ارجاعی از مجموع آنها فراهم آید تا فارسی زبانان به کنه و غور پیشینه فرهنگی خود و با چهره آنان که در قلمرو این فرهنگ قلم و علم زده اند ، آشنا گردند و آینده فرهنگی خود را با آگاهی به گذشته ، طرحی زاینده و پوینده در اندازند .

یادداشتها و ارجاعات

- ۱ - بنگرید به : رساله للبیرونی فی فہریس کتب الرازی ، به تصحیح یول کراوس ، پاریس ۱۹۳۶ م .
- ۲ - بنگرید به : کورکیس عواد ، مجلة الجمع العلمي العربي ، دمشق ، مجلد ۲۹ جزء ۳ ص ۲۵۹ .
جزء ۴ ص ۵۳۶ ، مجلد ۳۰ جزء ۱ ص ۶۰ .
- ۳ - مراد تکملة ثفہات الانس است . نیز کمال الدین عبدالواسع نظامی ، کتابی در مقامات جامی ساخته که بسیار مفید است . و در آن از جهله و دو اثر جامی سخن گفته و نیز فوایدی در خصوص نگاشته های او آورده است . بنگرید به مقدمه نگارنده بر این کتاب که زیر چاپ است .

۴ - مراد ادبیات فارسی بر مبنای تأثیر استواری است که توسط کریم کشاورز، سپرس ایزدی و یحیی آریان بوربر اساسن ترجمه روسی، همراه با اختلافات برگل فارسی شده، و آقای منزوی مطالب مفید در خصوص مسائل کتابشناسی و نسخه شناسی بدان کتاب افزوده است. امید است که بقیه بخش‌های آن فهرست نیز بهمین شیوه به فارسی ترجمه شود و در دسترس فارسی زبانان قرار گیرد.

۵ - فهرست مذبور اولین فهرست منتظرکی است که در زمینه نسخ خطی فارسی در ایران عرضه شده. همچنانکه در مقدمه جلد نهم فهرست نسخه‌های خطی کتابخانه رضوی نوشته ام، فهرست منزوی چون بحریت مواج، که البته سوای آب زلال و عذش، خارو خاشاک‌ها نیز دارد. عیب اساسی آن در اینست که مؤلف به فهرست‌های بیش از خود بسیار تکیه کرده، و درنتیجه بسیاری از لغزش‌های آن فهرست‌ها به فهرست ایشان سراایت کرده است.

۶ - این فهرست در چندین جلد تدوین شده است، تالحظه ای که این گفتار را می‌نوشم، چهار جلد آن از سوی مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان منتشر شده. علاقه و نلاشهای منع سربرست مرکز تامیره، یعنی آقای اکبر ثبوت را نیز تایید در چاب و عرضه داشت این فهرست و دهها متن ارزنده فارسی - که باهنام محققان پاکستان و از سوی مرکز تحقیقات عرضه شده - تاییده گرفت.

۷ - بنگریده: جهانگشای جوینی، تصحیح محمد قزوینی ۲۴۹:۳، ترجمة .. رشف الصائح الابيابية وكشف الفضائح اليونانية .. از شهاب الدین عمر شهروردی، ترجمة معلم بزدی، خطی موزه بریتانیا، ورق ۱۸۲، که گوید طی چهار سال تزدیک به سه چهار هزار کتاب فلسفی را آل مظفر در لرستان و اصفهان و آذربایجان به آب شسته اند. البته تزدیک نیست که انگلیسها در ایام غلبه بر شبه قاره، بسیاری از نفاس خطی را به یغما برداشتند، و نیز نادرشاه افشار بسیاری از نسخ خطی شبه قاره را به ایران آورد.

۸ - البته بی اطلاعی محققان افغانستان - اعم از فارسی زبان و پشتو زبان - نسبت به مائر فرهنگی زبان فارسی در شبه قاره با بی اطلاعی محققان ایران قابل قیاس، و نیز همگون و هموزن نیست؛ زیرا روابط فرهنگی و علایق اجتماعی بین مردم افغانستان و مردم پاکستان و هندوستان بیشتر از آنست که بین مردم ایران و شبه قاره.

۹ - با آنکه در پاکستان، و نیز در مکتب خانه‌های مربوط به مسلمانان هندوستان زبان فارسی بعرازات عربی تدریس می‌شود، و با آنکه مسلمانان شبه قاره به زبان فارسی، بمنان زبان دوم فرهنگ اسلامی می‌نگردند، ولی چنان می‌پندارم که بسیار کم‌آنکه به زبان فارسی بتوانند بیندیشند، و بجز خواص تحصیل کرده‌ها، دیگران از ساختهای دستوری زبان اردو، بهتر و زودتر، به کنه مقاهم و مصادیق فرهنگی می‌رسند. نیز به علت وجود این فکر که زبان می‌تواند هویت ملی و کشوری، را ایجاد کند و پرورش دهد، بیشترین محققان پاکستان و هندوستان حاصل تحقیقات و تنبیعت خود را که در زمینه زبان و فرهنگ فارسی هست به زبان اردو می‌نویسند. و چون زبان مزبور در میان محققان ایرانی رواج ندارد، مسلماً نوعی بی اطلاعی و بیگانگی نسبت به یافته‌های آنان در میان بیزوشنگران ایران بوجود نمی‌آید.

۱۰ - ج ۱ ص ۱۸-۲۰. نیز در مقدمه جلد پنجم که چاپ نشده و رونوشتی از آن توسط مؤلف در

اخبار من بنده قرار گرفته ، از عده ای دیگر که در طرح تألیف فهرست مشترک ، ایشان را یاری کرده اند ، یاد شده است که درمیان این گروه سه تن از همراهان نگارنده نیز هستند .

شکر الله سعیهم :

۱۱ - اضافه ۱۹:

۱۲ - از جمله پنکرید به : ۲: ۱۱۶۷ ، ذیل عنوان سواد الاعظم ، آوردن نویه (حتی ارجاع دادن به این نکته ها ، در جدیست که از حوصله این گفتار خارج است . واگر در نقد فهرست مشترک با توجه به ذکر نویه ها ، می بردام ، می تردید این گفتار نیز رساله ای می شد در حد دویست واندی صفحه .

۱۳ - تاریخ نظم و نثر در ایران و در زبان فارسی ، تایبایان قرن دهم هجری ، اچاب دوم ، تهران ۱۳۶۳ ص ۷۲۴ ، تکمله ص ۱۱۶ .

۱۴ - فهرست مشترک ۲: ۱۹۷۵ .

۱۵ - رساله نامبرده در هفده باب است دارای مطالبی تازه و نو که ارزش آن کمتر از نگاشته های عزیز الدین سفی نیست . نگارنده عکس نسخه مزبور را به لطف همکاران و اولیاء داشتند مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان تهیه کرده ام و به تصحیح آن بردام که امید است امکانات چاپ آن ، زودتر ، میسر شود .

۱۶ - هر چند که فهرست نامبرده ، یکی از مهمترین وارزنهای ترین فهرستهای موجود بشمار می رود . و نیز کارکرد بسیار سودمندی درمیان اهل کتاب داشته است ودارد ، اما چون مؤلف به بسیاری از فهرستهای قبلی - حتی آنها که نسخ و یا میکروفیلمهای آن در داخل ایران موجود است . در فراهم آوردن آن اثر ، تکیه کرده است ، در تئیجه بسیاری از اشکالات کتابشناسانه فهرستهای پیشین وارد فهرست ایشان شده .

۱۷ - ۲۰۵: ۲ ش ۱۱۱۸ .

۱۸ - فهرست مشترک ۳: ۱۳۱۸ .

۱۹ - درهایش یک صفحه از نسخه مزبور ، کاتب عباراتی از کتاب ، التراجم ، این عربی نیز به نسخه افزوده است . از آقای خضر نوشایی سپاس دارم که عکس این نسخه را برای استفاده و رویت بنده تهیه کردند و فرستادند . نیز پنکرید به ترجمه ، عوارف المعارف ، که معلوم نیست ، مصباح الهدایه ، است یا ترجمه ظهیر الدین ، وقياس کنید آن نکته را در مخطوطات شیرانی ۱۱۳۲ ش ۲۰۸:۲ با فهرست مشترک پاکستان ۳: ۱۹۳۱ ، نسخه شماره ۱۰۵۸ .

در اینجا لازم است گفته شود که سوای فهرستهایی که ۲۰ تا ۳۰ سال قبل در پاکستان فراهم آمده ، فهرستهای نیز در دهه اخیر در پاکستان عرضه شده که اینها نیز مأخذ مؤلف محترم فهرست مورد بحث بوده است . این فهرستها فهرست نسخه های خطی انجمن ترقی اردو ، و فهرست نسخه های خطی کتابخانه موزه ملی کراجی پانهایت دقت تألیف شده اند و اشکالاتی که ما در اینجا در خصوص مخطوطات شیرانی باد کردیم ، منوجه آنها نیست .

۲۰ - ج ۲: ۷-۱۲۴۸ .

۲۱ - طرائق الحقائق ، تهران ، چاپ دوم ، می تاریخ ۲ - ۳۲۴

۲۲ - شذرات الذهب ، بیروت ، بدون تاریخ ۸ - ۳۲۱ ، ۳۲۰ - ۲۲۰ ، ذیلی وقایع سال ۹۵۸

۲۳ - پنکرید به : ایرج افشار ، بیاض سفر ۵۷ .

- ۲۴ - ۲ (۱) : ۲۲ - ۲۳ . دل تاریخ . دست ایشان . در ساله ۱۴۰۰ در بیانات آنچه در آنکه ۲۵ .
 ۲۵ - بنگریده : دانش بزوه ، فهرست دانشگاه ۱۶ : ۳۹۶۰ . متنزه : نسخه های خطی فارسی (۱۶)
 ۱۱۲۱ .
 ۲۶ - جاده العاشقین را نتاری - صاحب ، مذکور احباب « خطی - در ترجمه شریف الدین حسین ،
 مخطوطات پدر مؤلف دانسته است که درست نیست . نگارنده ، مفتاح الطالبین » و ، جاده
 العاشقین « را تصحیح کرده و بزودی به جای خواهد سیرد . وامید است دیگر آثار این
 خانواده را که در شناخت تصوف و عرفان ماوراء النہر وسیاری از نکات اجتماعی و تاریخی
 سده دهم و بازدهم حائز اهمیت است ، در آینده جایگزین .
 ۲۷ - بنگریده : ۲ (۱) : ۲۰۲۲ .
 ۲۸ - بنگریده : محمود فاضل ، فهرست نسخه های خطی دانشکده الهیات و معارف اسلامی مشهد
 ۲ : ۶۴۱ - ۶۵۷ .
 ۲۹ - عبارتند از نسخه های قونیه (ش ۱۷۲۳) ولیدن ۱۱: ۱۰۲۵؛ وزیر ، و کتابخانه یوفسور صدیقی .
 این کتاب را نگارنده بر اساس نسخه قونیه و نسخه صدیقی جایگزین کرده است .
 ۳۰ - بنگریده : دانش بزوه : نسخه های خطی ، دفتر دهم ، ۲۶۵ .
 ۳۱ - کشف الظنون ، ستون ۱۸۴۶ .
 ۳۲ - فهرست مشترک ۲: ۲۰۸۷ ، ش ۲۷۹۴ .
 ۳۳ - ایضاً ، ص ۲۰۸۸ ، ش ۲۷۹۸ .
 ۳۴ - به نقل از عکس مجموعه ۴۴۰۹ گنج یخش ، ص ۷۴۸ ، ش ۹ - ۱۰ .
 ۳۵ - بنگریده : فهرست مخطوطات شیرازی ۲: ۲۱۰ .
 ۳۶ - وقتی نگارنده عکس نسخه مزبور را از دوست دانشمند آقای سید عارف نوشاهی خواست ،
 ایشان بر این نسخه تأمل کردند و به من نوشتند که آن رساله ، صد میدان پیر هری است .
 ۳۷ - نسخه بودلیان که اساس کاربرنده در تصحیح رساله مزبور بوده است دارای تصویریست گویای
 این مطلب که : چهل مجلس پس از تحریر بر سمعانی سماع شده . درین تصویر ظاهرآ
 سمعانی و امیر اقبال ، همراه با دو مرید دیگر دیده می شود . بطوریکه امیر اقبال رساله ای در
 دست دارد در حال خواندن ، سمعانی نشسته است و سماع می کند . این تصویر و عبارتی
 دیگر در متن چهل مجلس می رساند که تحریر چهل مجلس ، سالی چند ، پیش از در گذشت
 سمعانی ، یعنی سال ۳۶ انجام گرفته است .
 ۳۸ - درباره امیر اقبال . شاه حسین سیستانی در « احباء الملوك » اطلاعات تازه ای داده است .
 تهران ۱۳۴۸ ، ص ۹۴ - ۹۵ .
 ۳۹ - بنگریده : ن . مایل هروی ، مقدمه العروة لاهل الخلوة والجلوة ، تهران ۱۳۶۲ ، ص ۱۸ .
 ۴۰ - فهرست مخطوطات شفیع ، تألیف دکتر محمد بشیر حسین ، گردآورنده احمد ریانی ، لاهور ،
 دانشگاه پنجاب ۱۳۵۱ ش ۳۱۲ - ۳۱۳ .
 ۴۱ - ایضاً ۲۶۸ .
 ۴۲ - بنگریده : ج ۳ - ۱۴۰۳ .
 ۴۳ - فهرست مخطوطات شفیع ، بشیرین ۲۶۹ .
 ۴۴ - سوابی نکته ای که در خصوص تصویر نسخه بودلیان ، در گذشته نوشتم ، در مسأله منصور

- حلاج و ذکر دعای او نیز در چهل مجلس می خوانیم : .. دعا را در وقت مطالعه اگر مخدوم
دام ظله درین فرجه بتویستند ، حاکم آند » چهل مجلس ، تصحیح ن . مایل هروی ، ضمیمه
مجموعه رسائل و ملفوظات فارسی علامه الدوله سمنانی ، چاپ شده .
- ۴۵ - چهل مجلس ، بیشین ، و نسخه بودلیان ش ۱۴۶ ص ۳۷۷ .
- ۴۶ - بنگریده : نفحات الانس جامی ، تصحیح توحیدی پور . تهران ۱۳۲۷ ، ۴۴۳ .
- ۴۷ - طرازی : فهرس مخطوطات دارالکتب قاهره ، دو جلد . قاهره ۱۹۶۶ ، ش ۹۶۴ .
- ۴۸ - بنگریده : سید وحید اشرف کجهوچهوری ، احیات سید اشرف جهانگیر سمنانی (اردو)
لکھنؤ ۱۹۷۵ م ، ص ۴۲ و ۴۴ - ۵۷ .
- ۴۹ - فهرست مخطوطات شفیع . ۲۶۸ - ۲۶۹ .
- ۵۰ - ج ۲ - ص ۷۰۶ ، ش ۱۳۵۷ ، نسخه ش ۹۱۲۰ .
- ۵۱ - فهرست مشترک ۲ - ۷۴۰ .
- ۵۲ - برای توضیح این اشارات بنگریده : تعجب مایل هروی ، .. شرح فصوص الحكم « خوارزمی »
آینده ، سال دهم ، ۳۵۹ .
- ۵۳ - بنگریده : فهرس مخطوطات الفارسیة ، بیشین ۱ - ۳۷۷ ، فهرست نسخه های خطی فارسی ۲
(۱) - ۱۲۴۳ .
- ۵۴ - بنگریده : یوسف اهل ، فراند غیاثی ، تصحیح حشمت مؤید ۲ - ۵۶۳ ، تهران ۱۳۵۸ .
- ۵۵ - ایضاً ، همانجا ، ۲ - ۵۶۹ . طرز انشاء این نامه ها و نیز مطالعی که در نامه اول است ، دقیقاً من
رساند که نگارنده آن حسین خوارزمی مقتول ۸۳۹ است .
- ۵۶ - ۱۳۴۸ - ۳ .
- ۵۷ - بنگریده : جشن نامه هانری کریم ، تهران ۱۳۵۶ ، ص ۷۲ - ۷۹ .
- ۵۸ - کشف الظنون ۱۴ و ۵۸ .
- ۵۹ - بنگریده : فهرست کتابخانه ملی ملک ۵ - ۱۴۴ و فهرست نسخ خطی دانشکده الهیات تهران
۱ - ۶۸ .
- ۶۰ - بنگریده : فهرست نسخه های خطی کتابخانه دانشکده حقوق تهران ، ۱۹۹ ، مقدمه ..
التصفیه فی احوال المتصوفه » ، تهران ۱۳۵۷ ، بیست و نه ، فهرست کتابخانه مرکزی
دانشگاه تهران ۱۰ - ۱۶۰۳ : که انشاء دیگری از « معراجنامه » گزارش شده . ترقیمه نسخه
مراد بخاری (ش ۷۱) چنین است : .. الرسالة المراججية من كلام قطب الدين (ابو) المظفر
بن اردشير العبادی قدس الله روحه .. نیز بنگریده به استوری ، که در زمینه مؤلف «
معراجنامه » مورد بحث کلاً سکوت کرده است . ادبیات فارسی بر مبنای تأثیف استوری
(ترجمه) تهران ۱۳۶۲ . ج ۲ ص ۷۵ .
- ۶۱ - در فرهنگ سخنواران خیامیور از او یاد نشده ، گویا او تخلص محتسب را از شغل خود گرفته
است که بیش از گرایش به عرفان در این قوه آن شغل را داشته بوده .
- ۶۲ - مجمع البحرين ، خطی موذه بریتانیا ۲۲۵۸۰ . Add . ورق ۱۸۲ آ .
- ۶۳ - ایضاً ، ورق ۱۸۰ ب .

بخش شعر کاظمی «شاد»

زیر نظر: حسنین کاظمی «شاد»

قرآن همه به عظمت و شأن محمد است

هر آیتی بشرح بیان محمد است

قرآن همه به عظمت و شأن محمد است

باغ بهشت و کوثر و تسنیم هرچه هست

یک نعمت قلیل زخوان محمد است

گفتم به جبرئیل مقامش بگو که چیست

گفتا که لامکان، مکان محمد است

حَمَّ وصف حلقة گیسوی مصطفی است

ما يَنْطِقُ به وصف زبان محمد است

فرمود حق تعالیٰ «لَعَمْرُكُ» در آیتی

«سوگند کردگار بجان محمد است»

آن نسخه ای که فيه شفاء خطاب اوست

گفتار پاک و حُسن بیان محمد است

رضوان به حور گفت ز «شاکر» بگو که چیست

گفتا که مرغ زمزمه خوان محمد است

شاکر القادری-اتک

سلاخ و دلخ و دلخ زیبای اواز است در جهان نظری که در عالم ایران و خارج از آن مذکور شده است
از آنکه از این فرم از سرمهای ایرانی، چهل میلیون، تا هشتاد هزار هزاری، انتساب
کند.

سلطان محمود، «نامی»، مرحوم *

ناله دل

هر چشم بی دیدن دلدار بنالد
وین چشم من است آنکه بدیدار بنالد
گر گل رُخم از رُخ بچمن پرده گشاید
بی پرده گل از باع به بازار بنالد
گرزآتش جان سوخته ام دود برآید
از دود دلم گند دوار بنالد
«نامی» که بخورده بچگر نیر جگر دوز
زان دمبدم از درد جگر زار بنالد

براابر نمی کنم

سنبل بزلف یار برابر نمی کنم
گل را بگل عذر برابر نمی کنم
با گیسوی مسلسل مشکین دلربا
صد نافه تثار برابر نمی کنم
با خاک کوی دوست که کحل بصارت است
گل گشت لاله زار برابر نمی کنم
چشم غزالها چو گل نرگس چمن
با چشم پُر خمار برابر نمی کنم
پروانه نیز قمری و سرخاب و عندلیب
با «نامی» این چهار برابر نمی کنم

* از آثار فارسی او، «تاریخ جهان نما» و «گلزار نامی» در دست است.

سید حسنین کاظمی «شاد»

اسلام آباد

نور عشق

در صنم خانه دل نور خدا می بینم

صبح روشن زشب تار جدا می بینم

پرتو حسن ازل از رخ ماهاش پیداست

درنگاه کرمش لطف خدا می بینم

میخورم صدمغ جانکاه و نداند بت من

که از آن عشق جگر سوز ، چها می بینم

بیوفانی و دل آزاری و حیلت کاری

چه ستم ها که نه از اهل دغا می بینم

از کجا آمده وانگه بکجا خواهد شد

نو ورودی که در این کهنه سرا می بینم

منم آن ذره که خواهم برسم تابقلک

همت خود ز کجا تا بکجا می بینم

هر که اُفتاد بسرش باد و بدل حرص و هوی

خاکش آخر متفرق به هوا می بینم

میشکافم دل یک قطره اشکی به نگه

باز صد رنگ زیک رنگ جدا می بینم

اینکه دریای محبت شده بس طوفانی

جزر و مدّ یست کز آن ماه لقا می بینم

باز آن چشم غزالی شده مائل بکرم
 این چه جادوست که من باز خطامی بیشم
 خرده بر (شاد) مگیرید که اورا بخدا
 زاهدی یکدل و بی ریب و ریا می بیشم

دلیل عشق

نباشد آئینه ، چون چشم حیرانی که من دارم
 بگلشن هم نباشد نرگستانی که من دارم
 هزاران زخم پنهان کرده ام در سینه از عشقت
 که خوش آید ترا ای گل گلستانی که من دارم
 نگاه آتشینت قلب محزونم اگر سوزد
 نشاند آتش دل چشم گریانی که من دارم
 اگر گاهی ز راه لطف و الفت سوی من آیی
 هزاران گل دمد اندر بیابانی که من دارم
 بیادت قلب غمگینم بسی خوشحال گردیده
 چه خوش آمد ازان ناخوانده مهمانی که من دارم
 ارسسطو را کند گمراه برهانی که تو داری
 فلاطون را دلیل راه ، برهانی که من دارم
 به دُرهای سرشکم درشب هجران تاریکی
 چو گنج تابناکی گشت دامانی که من دارم
 نوای (شاد) شاعر هم برون ریزد زهر بیتش
 چو چنگ عشق ماند طرفه دیوانی که من دارم

ڈاکٹر شمس الدین احمد *

کشمیر میں فارسی ادب - ایک جائزہ

ہندوستان فارسی زبان و ادب کی پورش کا ایک بڑا مرکز رہا ہے - یہاں کئے تیموری نسل کے مغل بادشاہوں نے علوم و فنون لطیف کے علاوہ سارے ملک میں فارسی زبان و ادب کو ترقی دے کر اسے اوج کمال تک پہنچا دیا جس کے نتیجے میں یہاں کے بیشتر شاعروں، ادیبوں، عالموں اور دانشمندوں نے فارسی میں شعر کھیے اور نثر میں کتابیں لکھیں جن کی شہرت ہندوستان کی سرحدوں سے تجاوز کر گئی - ایک سو سال کی مدت میں باہر کے عہد سے شاہجهان کے زمانے تک فارسی شعر و ادب کمال عروج تک پہنچا - ایران کے معروف همکار شاعر ملک الشعراہ بہار مرحوم کے بقول (۱) ہندوستان فارسی ادب میں پیشرفت کے لحاظ سے ایران ثانی بن گیا -

مغل دور میں ایرانی شاعروں نے ہندوستان میں مہاجرت کی اور یہاں آزادی کے ساتھ سخن سرانی میں منہمک رہ کر اپنی استعداد و مہارت کو بہتر طور پر آشکارا کیا - یہ بھی ایک بڑی وجہ ہے کہ تقریباً ہندوستان کے ہر صوبے کی مقامی زبان پر فارسی

* ولادت: ۱۸ جون ۱۹۳۱ء۔ ڈین فیکلٹی آف اوریستیل سٹیز - کشمیر یونیورسٹی سری نگر۔

آثار: ۱ - شمس فقیر (کشمیر کا صوفی شاعر) ۲ - احوال و آثار محمد رضا مشناق کشمیری۔

فارسی سے کشمیری ترجم: ۱ - راماين ۲ - معاجمی بابا اصفہانی ۳ - شهر آهو خاتم۔

زبان کا اثر نمایاں ہے، چنانچہ بعض صوبوں میں فارسی نر مقامی زبان کی جگہ لر لی اور وہاں کر لوگ کلی طور پر فارسی شعر و ادب کی طرف ہی بیشتر متوجہ ہوئے، لیکن کشمیر میں فارسی زبان و ادب کی کیفیت کی داستان بالکل جدا ہے کیونکہ جس زمانے میں ہندوستان میں فارسی زبان و ادب نر رونق اور ترقی پائی تھی اس وقت تک کشمیر میں اس زبان و ادب کو ترقی دینے میں قریب ڈھانی سو سال کا عرصہ گذر چکا تھا اور شاید اسی لئے کشمیر کو .. ایران صغیر .. کر نام سر بھی یاد کیا جاتا ہے۔

ایران اور کشمیر کے تمدنی اور تجارتی روابط بہت قدیم ہیں۔ „واقعات کشمیر“ اور „تاریخ حسن“ کے مقامی مؤلفین نے اپنی ان تاریخوں میں لکھا ہے کہ ایران کے ایک لعل فروشن نے جو ہندو سلاطین کے عہد میں راجہ سندر یا سریندر کے زمانہ سلطنت میں ہیرے اور جواہرات بیچنے کے لئے کشمیر میں آیا تھا واپس ایران جا کر اس کی بیشی کے حسن و جمال کی اسفند یار کے بیٹھ بہمن کے سامنے بڑی تعریفیں کیں۔ بہمن نے اپنے وزیر حکیم جاماسپ (یا موخر حسن کے بقول طاماسپ) کو مذکورہ راجا کی کتابوں نامی بیشی کی خواستگاری کے لئے بھیجا۔ بادشاہ کشمیر نے بیش قیمت تحائف کے ساتھ اپنے رضاعی برادر لولو کی ہمراہی میں بیشی کو ایران روانہ کر دیا۔ ان مؤلفین نے اس بات کا بھی اضافہ کیا ہے کہ اسی لولو کے خیانت کرنے کے نتیجے میں بہمن قتل ہوا اور بعد میں خود لولو بھی پاداش میں مارا گیا۔ کشمیر میں ایرانی لعل فروشوں کی رفت و آمد سر معلوم ہوتا ہے کہ قدیم زمانے سے کشمیر اور ایران کے درمیان تجارتی رشتے قائم تھے۔

سرینگر سے قریب پندرہ کلو میٹر دور مشرق میں ہازوں نامی

جگہ کر قديم مندر سر ثائلوں کی درياافت نيز پتھر کر بني هونزه
مجسموں سر جو مختلف جگہوں سر مکشوف هوئي هیں ساسانی
دور میں ایرانی هنر و تمدن کر اثر و رسوخ کا علم ہو جاتا ہے۔
مشہور برطانوی محقق ستاین، جس کی تحقیق کشمیر کر تمدن
کر بارے میں معروف ہے، کر بقول (۲)، سنسکرت زبان میں، جو
کشمیر کی ادبی زبان اور ایک حد تک بول چال کی زبان بھی
تھی، دبیر اور گنجور جیسے فارسی الفاظ کر داخل ہونے سے
ساسانی دور میں ایرانی زبان و تمدن کا اثر واضح ہو جاتا ہے۔
دوسری طرف سر کشمیر کر بدھ مبلغین کر توسط سے، جو بدھ
مذہب کی توسعہ و تبلیغ کر لئے ایران کر مختلف علاقوں میں مقیم
تھے، ایرانی رسوم و افکار بھی متاثر ہوتے رہے یہ دو جانبہ اثر و
رسوخ اس بات کا شاهد ہے کہ ایران اور کشمیر کر باہمی تعلقات
قریبی تھے۔

چوتھی صدی ہجری میں کشمیر کا بادشاہ سنگرام راجہ (۳۹۸ھ - ۴۲۷ھ) سلطان محمود غزنوی (م ۳۲۱) کر دو حملوں سر دوچار
ہوا۔ اگرچہ سلطان محمود نے وادی کشمیر کر مغرب میں واقع
توس میدان تک پیشقدمی کی لیکن وہ کشمیر کو اپنی سلطنت کا
ایک جزو نہ بنا سکا۔ اس کر باوجود شاہان کشمیر نے ایرانی
تمدن کر سیلاہ کو روکنے کر لئے دیوار نہ باندھ سکر اور کشمیر
کی سرحدوں کر قرب و جوار میں غزنوی حکومت قائم ہو جائز کر
نتیجے میں کشمیری بادشاہوں نے غزنوی سپاہیوں کو اپنی فوج
میں شامل، اور ان کر لباس کی وضع و ساخت کو اپنے فوجیوں کر
لئے اختیار کیا۔ راجہ هرش (۱۰۸۹ء - ۱۱۰۱ء) مسلمانوں کیلئے خاطر
خواہ اقدامات عمل میں لایا۔ اقتصادی بحران کر ایام میں یہ راجہ

سونئے کرے بنجھ ہوئے بتوں کو ، جو کشمیر کرے بیشتر مندرجہ میں نصب تھے ، توڑ کر انہیں مالی مصرف میں لئے آیا ۔ لیکن ان حالات و واقعات کرے باوجود ، عمومی طور پر ، ایرانیوں اور شمالی ہندوستان میں ترکوں کرے ساتھ وادی کشمیر کو احاطہ کئے ہوئے بلند برف پوش اور دشوار گذار پہاڑوں اور گھائیوں کی وجہ سے زبان و تمدن کرے روابط ناچار محدود تھے ۔ کشمیر کے سیاسی ، تعلیمی ، تجارتی اور ادبی روابط ، ایران کے ساتھ ، صرف اس وقت مستحکم اور مضبوط ہوتے جب چودھویں صدی عیسوی میں مسلمانوں کی حکومت وہاں قائم ہوئی ۔

تیرہویں صدی میں منگول اپنے وطن سے نکل کر یورپ اور ایشیا کے اہم حصوں پر قابض ہو گئے ۔ ۱۳۲۰ء میں ذوالقدر خان کی سرکردگی میں ، جو کشمیر میں ذوالچو کے نام سے مشہور ہے ، منگول حملے نے کشمیر کی ترقی کی راہ میں ایک عظیم رکاوٹ پیدا کی ۔ کشمیر کی تاریخ میں یہ حملہ ایک بڑی مصیبت اور بدیختی تھی ۔ اس وقت کا بادشاہ راجہ سہادیو (۱۳۰۱ - ۱۳۲۰ء) جسے آخری سانس تک مقابلہ کرنا چاہیئے تھا ، ننگ آور طریق سے کشمیر سے فرار ہوا اور بے سہارا کشمیریوں کو خون آشام منگولوں کی تلواروں کے سپرد کر گیا ۔ منگولوں نے کشمیریوں کا بڑی بیداری کے ساتھ قتل عام کیا ، مکانوں میں آگ لگا دی ، عورتوں اور بچوں کو غارتگری کا شکار بنایا ، فصلوں کو نذر آتش کیا ۔ اور ہری بھری وادی کو دفعتاً ایک ویران بیابان بنایا ۔ جو لوگ اپنی جان لئے کر بھاگ کرے دور پہاڑوں ، گھائیوں اور غاروں میں روپوش رہے ۔ آٹھ ماہ تک کے طویل کشت و خون کے بعد جب منگول سردار کشمیر کو چھوڑ کر چلا گیا کشمیر

ایک عجیب انتشار میں پڑا رہا۔ بیچارے بچھ کھمیریوں پر خوف و هراس اور بدنظمی کر اثرات اس قدر عمیق تھے کہ آج بھی جبکہ اس مرگ بار حدث کو قریب سات سو سال کا عرصہ گذر چکا ہے، "کشمیر میں گیارہ گھر باقی رہے" کی اصطلاح زبان زد عوام ہے۔

ایک مرتب و منظم حکومت موجود نہ ہونے کی وجہ سے لہاچن ریگیاں بورینچن نامی لداخی شہزادے نے، جو لداخ سے بھاگ کر ان ایام میں کشمیر میں پناہ گزین کی حیثیت سے مقیم تھا، ۱۳۲۰ء میں کشمیر کے تخت پر قبضہ کر لیا۔ اس زمانے میں دو اور شہزادے بھی کشمیر میں قیام پذیر تھے ایک سو سو سو کا (یا بعض مو رخین کے بقول خراسان کا) شہمیر ابن فور شاہ نامی، اور دوسرا شنگی چک (یا لنکر چک) داردو کا۔ کشمیر کے آخری ہندو بادشاہ راجہ سہادیو کے اپنے امراء کے خلاف جنگ میں شہمیر ابن فور شاہ نے راجہ کے حق میں بڑی مردانگی دکھائی جس کے نتیجے میں وہ وزیر اعظم کے عہدے پر فائز ہوا۔ لداخ کا شہزادہ، بادشاہ کشمیر رینچن، سید عبدالرحمن بلبل شاہ کے ہاتھوں مسلمان ہوا اور سلطان صدر الدین کے لقب سے تخت نشین ہوا۔ یہ کشفیہ کا پہلا مسلمان بادشاہ تھا۔

سید عبدالرحمن بلبل شاہ جن کا نام مقامی تاریخوں میں سید شرف الدین اور سید بلاں شاہ بھی درج ہے ترکستان اور بقول مؤلف، "واقعات کشمیر" خراسان سے علماء و مبلغین کی ایک جماعت کے ہمراہ دین اسلام کی ترویج و تبلیغ کے لئے کشمیر آئی (۲۴-۲۵ھ)۔ کشمیر میں یہ اسلام کے پہلے مبلغ تھے۔ اگرچہ بلبل شاہ صاحب اور ان کے ساتھی مبلغین کی تبلیغی

سرگرمیوں کرے باسے میں اطلاعات دستیاب نہیں۔ لیکن یہ بات مسلم ہے کہ اسی زمانے سے باقاعدہ طور پر فارسی زبان و ادب کا آغاز ہوا نیز شہمیر کی کوششوں سے جس کی مادری زبان فارسی تھی بلاشبہ فارسی زبان و تمدن کم از کم سری نگر میں جو دارالخلافہ تھا رفتہ پہلئے لگر۔ اس لحاظ سے یہ دور کشمیر کی فارسی ادب کی تاریخ میں بھی اہمیت کا حامل ہے جبکہ شہمیر اور سید عبدالرحمن بلبل شاہ کے علاوہ درباری علماء و امراء کے توسط سے جو دین اسلام قبول کر چکے تھے، اسلامی علوم اور ایرانی الاصل مبلغین کی زبان اور تمدن کی بنیادیں مضبوط کرنے کے اقدامات عمل میں لائز گئے۔

سلطان صدر الدین نے تین سال کی حکومت کرے بعد وفات پائی (۲۲۷ھ) اور اس کے بعد اس کی ملکہ کوثرانی نے، جو اسی مفرور راجہ سہادیو کی بیوی تھی، مؤخر الذکر کے بھائی ادین دیو کے ساتھ شادی کر کے اسے تخت پر بٹھا دیا (۲۲۸ھ)۔ ادین دیو کی وفات (۲۳۳ھ) کے بعد کوثرانی خود تخت پر بیٹھی۔ لیکن سیاسی حالات اور شہمیر اور کوثرانی کے باہمی عناوں کشمش کش اور ادین دیو کی نااہلیت کے نتیجے میں کشمیریوں کے کوثرانی کے خلاف برسپیکار رہنے کی وجہ سے عوام نے شہمیر کا ساتھ دیا اور شہمیر (۲۳۴ھ)۔ ۱۳۳۸ء میں سلطان شمس الدین کے لقب سے تخت نشین ہوا۔ سلطان موصوف نے کشمیر میں شہمیری سلاطین کے خاندان کی بنیاد ڈالی۔ اس معروف خاندان کے ائمہ اعظم سلاطین نے دو سو پچیس سال کے عرصے میں یعنی ۱۳۲۸ء سے ۱۵۶۲ء تک نہ صرف سیاسی لحاظ سے کشمیر کو مضبوط بنایا بلکہ فرداً فرداً فارسی زبان و ادب اور فرهنگ و تمدن کی خدمت

کرنے کر علاوہ مقامی ، ایران اور وسط ایشیا سے آئے ہوئے شاعروں ، ادیبوں ، عالموں ، مؤرخوں اور ہنرمندوں کی حوصلہ افزائی اور سربرستی کر کر فارسی ادب کا حیرت انگیز اور معتمد ہے ذخیرہ وجود میں لا کر شمالی ہندوستان میں فارسی ثقافت و ادب کا ایک جدید مرکز قائم کرنے میں کامیاب ہوئے ۔

شمیری دور کشمیر میں فارسی زبان و ادب کی ترویج و توسعہ کا دور شمار ہوتا ہے۔ شمیری دربار اور کشمیر کے دوسرے حکومتی علاقے ، ایران ہی کی طرح علم و ادب کے مراکز اور علماء و دانشمندوں کی محفلوں میں تبدیل ہوئے ۔ یہ دور بے شک و تردید فارسی ادب کی زبردست پیشرفت کا دور ہے۔ اس دور میں کشمیر کے فارسی شاعروں ، ادیبوں ، دانشمندوں اور مؤرخوں کی تعداد میں حیرت انگیز اضافہ ہوا اور وسط ایشیا اور ایران کے ساتھ کشمیر کے ادبی تعلقات خاص طور پر مضبوط بنیادوں پر استوار ہوئے ان غیر معمولی تعلقات کے استحکام کی چند وجوہات ہیں :

چودھویں صدی عیسوی کے بعد دین اسلام کی ترویج و اشاعت کشمیر میں صوفیوں اور عارفوں کی اس جماعت کی کوششوں کی مراہن منت ہے ، جو ایران اور وسط ایشیا کے مختلف علاقوں سے ، پہلے منگولوں کے طغیان ، اور بعد میں تیمور کے حملوں سے پیدا ہوئے والی انتشار کے نتیجے میں ، کشمیر چل آئے ۔ جیسا کہ پہلے عرض کیا گیا ، سید عبدالرحمن بلبل شاہ یا سید شرف الدین بلبل شاہ خراسان یا بقول بعض مو رخین ترکستان سے سادات و علماء کی ایک بڑی جماعت کے ساتھ ۲۳ ہ میں کشمیر تشریف لائے ۔ (۲) اور یہاں کے بدھ مذہب سے وابستہ

بادشاہ رینچن کو اس کر درباری امراء کر سمیت مسلمان بنا دیا اور
اس طرح سر انہوں نے ایرانی زبان اور تمدن کی بنیاد ڈالی لیکن
اس مختصر دور کی ادبی سرگرمیوں کی تفصیل کر بارے میں
ہماری اطلاعات کافی نہیں ہیں ۔

بلبل شاہ کی وفات کر پچاس سال بعد جس عظیم مرد حق
آگاہ اور عارف ربانی نے قطعی اور برجستہ و نمایاں طور پر کشمیر
میں دین اسلام اور وسط ایشیائی تمدن اور ایرانی زبان و ثقافت و
ادب اور صنعت و حرفت کو انتہائی درجخ تک رواج اور وسعت دی
، وہ تھے میر سید علی همدانی جو کشمیر میں حضرت امیر کبیر اور
حضرت شاہ همدان کر نام سر یاد کئے جاتے ہیں ۔ شاہ همدان نے
کشمیر کو اپنے قدوم میمانت لزوم سے تین بار مشرف فرمایا، اول بار
سال ۱۲۷۲ء میں سلطان شہاب الدین شہمیری کر عہد سلطنت
میں جب کہ ان کا قیام چار ماہ تک رہا ۔ دوسری بار سال ۱۲۷۹ء
میں سلطان قطب الدین شہمیری کر دور بادشاہت میں جبکہ وہ
ڈھائی سال تک مقیم رہے اور تیسرا اور آخری بار سال ۱۲۸۳ء
۱۲۸۶ء میں جبکہ ان کا قیام ایک سال رہا ۔ حضرت شاہ همدان نے
جو سات سو سادات و علماء و فضلاء و عرفاء کی تبلیغی جماعت
کر ساتھ کشمیر میں آئے تھے، کشمیر کے گوشہ و کنار میں دین
اسلام اور ایرانی تمدن اور ایرانی زبان و ادب کو پھیلایا ۔

ہندوستان میں کشمیر وہ پہلا علاقہ ہے جہاں دین اسلام کی
اشاعت فارسی زبان میں ہونی ۔ شاہ همدان اور ان کے ساتھی
مبلغین نے بیک وقت پوری وادی میں اسلام کی تبلیغ کر ساتھ
فارسی زبان و ادب کو بھی فروغ دیا ۔ حضرت شاہ همدان نے اپنے
کئی هزار کتابوں پر مشتمل ذاتی کتاب خانج سے ۔ جو اس سفر میں

ان کر ساتھ تھا ، مبلغین کو کتابیں دین تاکہ وہ کشمیر کر مختلف علاقوں میں جاکر نو مسلموں کو دینی علوم اور بالخصوص فارسی و عربی زبانوں سے آشنا کر سکیں - خود شاہ همدان ایک بہت بڑے عالم و فاضل ، شاعر ، نرنگار اور صاحب تصنیف بزرگ تھر جن کی تصنیفات کی تعداد بعض مو رخین کر بقول ایک سو تک ہے - ان تصنیفات میں سیاست مدن و حکمت و اخلاق میں کتاب „ذخیرۃ الملوك“ ، خواجہ عبدالله انصاری کی اسلوب کی پیروی میں ، مناجات نامہ ، ،، منہاج العارفین ، ،، مرآۃ الطالبین ، ، رسالت مکتوبات ، ،، کشف الحقایق ، ،، فتویہ ، ،، رسالت نفسیہ ، ،، حل مشکلات ، اور فارسی غزلیات کا مجموعہ بنام ،، چهل اسرار ، معروف ہیں - شاہ همدان نے کشمیر سے واپس ہو کر پاکستان کر علاقہ ہزارہ میں پکھلی نام کی جگہ پر انتقال فرمایا (۸۶۸ھ) اور وہاں سے ان کے جسد مبارک کو تاجکستان کے گاؤں کولاب لے جایا گیا جہاں وہ مدفون ہیں -

حضرت شاہ همدان کی وفات کے بعد ان کے فرزند حضرت میر سید محمد همدانی ایرانی اور وسط ایشیائی سادات و عرفاء و علماء و فضلاء کی ایک جماعت کے ساتھ جن کی تعداد کشمیر کی مقامی تاریخوں میں آئے سو سے بارہ سو تک مسلسل اپنے کشمیر میں تشریف لائے اور انہوں نے بارہ سال تک مسلسل والد بزرگوار کے تبلیغی کام کو جاری رکھا - میر سید محمد همدانی کے قیام کے دوران فارسی زبان و ادب کے حدود اتنے وسیع ہوئے کہ ہادشاہان وقت فارسی زبان میں بات چیت کرنے لگے اور فارسی زبان کو شاعروں اور ادیبوں کے توسط سے علمی درجہ حاصل ہوا - کشمیر میں ایرانی رسوخ حضرت شاہ همدانی اور ان

کر فرزند کی کوششوں سر معنوی بھی تھا اور علمی لحاظ سر ظاہری بھی - ان دونوں عظیم الشان باپ یسٹر کی خدمات کر نتیجہ میں ، جو ایرانی الاصل تھے ، ان کے مجموعاً سولہ سال کے قیام کے دوران کشمیریوں نے فقط ایرانی تمدن و رسوم و عادات کو اپنا یا بلکہ مقامی ادیبوں نے اسلامی اخلاق و سیر و تاریخ و آداب پر لکھی گئی فارسی کتابوں سے استفادہ کرنے کے علاوہ خود فارسی زبان میں کتابیں لکھیں اور شعر کئے -

اس ضمن میں ملا احمد کشمیری کی تالیف ،، فتاویٰ شہابی ،، اور قاضی ابراهیم بن حمید الدین کی ،، تاریخ کشمیر ،، جو فارسی میں لکھی گئی قدیم ترین اور اولین تاریخ کشمیر ہے ، کے نام لئے جا سکتے ہیں - خود حضرت میر سید محمد همدانی نے کشمیر میں تصوف اسلامی پر ایک رسالہ مرقوم فرمایا اور اس سلطان سکندر شہمیری کی خدمت میں پیش کیا - غرض حضرت شاہ همدان اور ان کے فرزند کے دینی و علمی اور تمدنی و فرهنگی تبلیغات کے نتیجے میں کشمیریوں نے ایرانی دین (اسلام) اور ان کے تمدن اور ان کی زبان کو کھلے آگوش کے ساتھ قبول کیا اور وادی بھر میں اسلامی مسجدیں ، مکتب ، درسگاہیں اور کتب خانے قائم ہوئے - سید میر محمد همدانی بھی اپنے والد بزرگوار کے پہلو میں کولاب میں دفن ہیں -

دین اسلام کے عام ہو جائز کے نتیجے میں کشمیری مسلمانوں کے لئے لازم فرار پایا کہ فکری اور معنوی الہام حاصل کرنے کے لئے وہ ان ہمسایہ اسلامی ممالک کے طرف رجوع کریں جو اس زمانے میں اسلامی تمدن و نقاوت کے مرکز تھے - کشمیری علماء اور دانشمندوں نے تزدیکترین اسلامی مراکز میں جو ایرانی پرچم کے

تحت تھر ، سفر کیا اور ان علاقوں کے عالموں اور دانشمندوں ، فقهیوں اور عارفوں کی محفلوں سے استفادہ کیا اور جب واپس آئے تو عربی اور بالخصوص فارسی زبان و ادب اور علوم و ثقافت کو وسعت دینے کے عمل کو جاری رکھا اور تعلیم قرآن اور فارسی زبان و ادب کی درسگاهیں قائم کیں جو مدت تک جاری رہیں ۔ ان ہی درسگاہوں نے شیخ المشایخ سلیمان جیمسیر عالم قرآن جو علم تجوید میں ماهر اور امام القری کے لقب سے معروف تھے، محلہ قطب الدین پور کے مدرسہ القرآن سے شیخ احمد خوشخوان اور سید جمال الدین جیمسیر بلند مقام اور بے نظیر محدث ، فقیہ اور عالم دین مدرسہ عروۃ الونقی سے پیدا کئے ۔

سلطان شہاب الدین شہمیری کے زمانہ سلطنت سے ایرانیوں اور ایرانی الاصل ترکوں نے کشمیر میں فارسی تمدن اور زبان و ادب کے برہ راست نفوذ اور انہیں نتیجے میں کشمیر کی طرف ہجرت کی اور اس طرح سے کشمیریوں اور ایرانیوں کے باہمی میل جوں اور معاشرت کے نتیجے میں کشمیریوں کی معاشرتی اور تمدنی زندگی ایرانی زبان اور ثقافت و تمدن کے زیر اثر قرار یائی ۔ یہ تعلقات ایرانی اور وسط ایشیائی تاجروں کی آمد و رفت سے بھی مستحکم ہوئے اور اقتصادی لحاظ سے جبکہ دونوں معالک کی اشیاء کا تبادلہ ہوئے لگا کشمیر کی ثروت میں اضافہ ہوئے کہ ساتھ ساتھ صنعت و حرفت میں بھی توسعہ ہوئی ۔

ایران اور کشمیر کے ما بین سفیروں کی تقریبی ان دو معالک کے باہمی سیاسی ، تمدنی اور ادبی تعلقات کو مضبوط بنانے کی ایک اہم وجہ رہی ہے ۔ جیسا کہ کشمیر کی تاریخوں سے معلوم ہوتا ہے ، امیر تیمور کے بیٹے شاہ رخ میرزا (۱۳۰۲ء - ۱۳۳۸ء) نے معاصر

کشمیری بادشاہ سلطان زین العابدین کر لئے (جس کا ذکر آگر آئیگا) ہیرے ، جواہرات، ہانہی اور گھوڑے ہدیہ کر طور پر بھیجنے۔ سلطان موصوف نے شکریہ کے طور پر شاہ رخ میرزا کو لکھا کہ اگر آپ ہیرے جواہرات کے عوض اپنے دربار کر چند عالموں اور دانشمندوں کو میرے دربار میں بھیج دیئے تو وہ میرے لئے زیادہ احسان و امتنان کا موجب ہوتا۔ شاہ رخ میرزا نے سلطان کی خوشنودی کی خاطر اپنے دربار کے چہ من منتخب عالموں اور دانشمندوں کی جماعت کو مختلف علوم سے وابستہ عربی اور فارسی کتابوں کے ساتھ کشمیر بھیج دیا۔

سلطان زین العابدین اور ماوراء النہر کے تیموری الاصل بادشاہ سلطان ابوسعید میرزا (۱۳۵۲ - ۱۳۶۲ء) کے درمیان بھی سیاسی اور تمدنی تعلقات قائم تھے۔

سلطان زین العابدین کے پوتے سلطان حسین شاہ شہمیری (۱۳۷۲ - ۱۳۸۳ء) اور خراسان کے بادشاہ سلطان حسین میرزا کے درمیان سفیروں کا تبادلہ ہوتا رہا۔ چنانچہ عراق عجم کے طالش نامی جگہ کے رہنے والے مشہور شیعہ عالم میر شمس الدین عراقی سلطان حسین مرزا کی طرف سے کشمیر میں سفیر تھے۔ میر شمس الدین عراقی نے کشمیر میں شیعہ مسلک کو رواج دیا۔

شہمیری سلاطین کی عظمت کا دور، ایرانی ثقافت و تمدن اور زبان و ادب کی کلی تکمیل کے لحاظ سے اور سیاسی اور اجتماعی سکون و اطمینان کے لحاظ سے بھی سلطان زین العابدین شہمیری (۱۳۶۰ - ۱۳۷۱ء) کا دور سلطنت تھا۔ اس دور میں کشمیر کی سر زمین ادب، کم نظیر اور نام آور عالموں، ادیبوں، شاعروں، تاریخ نویسوں اور بلند مقام مترجموں کے وجود سے

لہلہ رہی تھی۔ سلطان موصوف کر عہد میں خود اس کی ذاتی حمایت و سربرستی کر زیر اثر فارسی زبان حکومتی اداروں اور شاہی دربار کی زبان بن گئی اور اس طرح سے کشمیری برهمن علماء نے بھی اس زبان کو علمی زبان کر طور پر استعمال کیا اور رفتہ رفتہ سنسکرت علمی زبان کی حیثیت سے متروک ہو گئی۔

سلطان زین العابدین کر عہد سلطنت میں کشمیر فارسی زبان و ادب کو فروغ دینے میں ایک جدید مرکز کی حیثیت سے ابھرا اور ایرانی سخن شناسوں، ادیبوں، محققوں اور عالموں کے لئے ایک علم دوست اور ادب پرور بادشاہ کی تشویق و حمایت اور حوصلہ افزائی و سربرستی کے سبب کشمیر، ایران ثانی، بن گیا۔ سلطان زین العابدین بعض مقامی تاریخ نویسوں کے بقول (۵)، ولی عہدی کے زمانے میں جبکہ وہ شاہی خان کے نام سے جانا جاتا تھا، سات سال تک امیر تیمور کے دربار میں مقیم رہا اور اس عرصے میں وہ ایرانی اور وسط ایشیائی علوم و فنون اور ثقافت و ادب سے کافی حد تک آشنا ہوا اور جب کشمیر میں واپس آیا تو اپنے ساتھ گونا گون صنعتوں میں ماہر فن کاروں اور کاریگروں کو لے آیا جنہوں نے کشمیر میں شال بافی، قالین بافی، چکن دوزی، نمد سازی، زرگری، کاغذ سازی، صحافی، کنده کاری اور خطاطی وغیرہ کو فروغ دیا۔

سلطان زین العابدین فارسی میں بات چیت کرتا تھا اور اپنے درباری ملک الشعراء ملا احمد کشمیری کے ساتھ بدینہ گوئی بھی کیا کرنا تھا۔ «تاریخ حسن» کے مؤلف کے بقول (۶) سلطان موصوف فارسی میں بات چیت کرتا تھا اور شعر بھی کہتا تھا اور اس نے قطب تخلص اختیار کیا تھا۔ وہ فارسی زبان و ادب کے

نکات و دقائق سرخ بخوبی واقف تھا اور سخن فہم و سخن شناس بھی تھا۔ فارسی نثر میں سلطان نے دو کتابیں تصنیف کیں، ایک آتشبازی کرے آلات بنانے کے طور طریقوں پر جو بعد میں مقامی ادیبوں کے لئے ایک نمونہ قرار پائی۔ یہ کتاب اس لئے لکھی کہ اس دور میں کشمیریوں کا محبوب مشغله آتشبازی تھا۔ دوسری کتاب، "شکایات" نام کی لکھی جو دنیا نے دون کی ناپانیداری اور لوگوں کی بے وفائی بالخصوص اپنے بیشوں کی بے دانشی و خیانت کاری کرے بارے میں ہے، جنہوں نے بادشاہ کے آخری ایام عمر میں کشمیر کے نخت کو حاصل کرنے کیلئے ایک دوسرے کے خلاف اور بادشاہ کے خلاف سازشیں شروع کی تھیں۔

سلطان زین العابدین نے ایک دارالترجمہ کی بنیاد ڈالی جس میں سنسکرت کی کتابوں کا فارسی میں ترجمہ کیا گیا۔ خود ملا احمد نے جو سنسکرت کے بھی ایک بڑے عالم تھے ہندوؤں کی معروف اور مقدس کتاب مہابھارت کا فارسی میں ترجمہ کیا اور یہ میرے خیال میں مہابھارت کا پہلا فارسی ترجمہ ہے، جو کشمیر میں ہوا ہے۔ اس کے علاوہ ملا احمد کشمیری نے سنسکرت میں لکھی گئی کشمیر کی قدیم منظوم تاریخ، "راج ترنگنی" کا بھی، "بحر الامصار" کے نام سے فارسی میں ترجمہ کیا۔

سلطان زین العابدین کے برہمن درباری علماء مثلاً شری ور، جون راج اور پراجیہ بہت نے سنسکرت میں بھی تاریخیں لکھیں۔ سوم پنڈت نے سلطان کے حالات زندگی کے بارے میں، "زین چرت" نامی کتاب لکھی۔ پراجیہ بہت اور جون راج نے راجا ولی پائکا اور زین راج ترنگی بالترتیب تصنیف کیں۔ شعبہ سنسکرت کے صدر پنڈت بودھ بہت کو شاہنامہ فردوسی ازبر تھا اور مناسب

موقوں پر سلطان کو سنایا کرتا تھا۔

فارسی علوم و ادب کی ترویج کر لئے سلطان زین العابدین نے سرینگر کر ایک موجودہ نو شہرہ نامی محلہ میں جو اس کا دارالخلافہ تھا، ایک یونیورسٹی قائم کی اور اس کے علاوہ سارے کشمیر میں مدرسے کھولے جن میں ایک مدرسہ طب سے متعلق تھا جس کا سربراہ اس زمانے کا مشہور کشمیری طبیب منصور بن محمد بن احمد بن یوسف بن الیاس تھا جو ایک متخصص کی حیثیت سے بھی اس طبیہ کالج میں کام کرتا تھا۔ طب کی مشہور کتاب جو ایک مدت تک ہندوستان کی طبی درسگاہوں میں نصاب میں شامل تھی اور „کفاہ منصوری“ یا „کفاہ مجادیہ“ کر نام سے معروف ہے اسی مشہور کشمیری طبیب کی لکھی ہوئی ہے۔ سلطان موصوف کے عہد سلطنت میں معروف و نامی درباری اور غیر درباری شعراء و فضلاء میں ملا احمد، سید محمد امین منطقی اویس، مولانا کبیر، مولانا احمد رومی، ملا حسین غزنوی، مولانا جمال الدین، قاضی میر علی، مولانا قادری اور ملا فصیحی کے نام قابل ذکر ہیں۔

سلطان زین العابدین کے جانشین سلاطین نے اس ادبی اور ثقافتی عمل کو ذوق و شوق کے ساتھ جاری رکھا اور شہمیری خاندان کے زوال تک (۱۵۶۱ء) جبکہ چک خاندان کے سلاطین نے اقتدار سنبھالا یہ کوششیں جو بڑی بار آور تھیں جاری رہیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ سارے کشمیر میں فارسی زبان و ادب کا غلبہ ہوا اور کشمیر ایک چھوٹا ایران یا „ایران صغیر“ بن گیا۔ لیکن جیسا کہ پہلے کہا گیا، اس عمارت کی بنیاد، اور محکم و مضبوط اساس، اسی عارف حق آگاہ یعنی حضرت امیر کبیر میر سید علی

همدانی کر ہاتھوں پڑی جن کر احترام میں سرینگر کر عین وسط
میں دریائے جہلم کر مشرقی کنارے پر ایک معروف خانقاہ، "خانقاہ
معلی" کے نام سے تعمیر کی گئی اور جن کی ستائش میں کشمیری
الاصل شاعر مشرق حضرت علامہ اقبال نے، "جاوید نامہ" میں یوں
فرمایا ہے :

سید السادات ، سالار عجم

دست او معمار تقدیر ام

تاغزالی درس اللہ ہو گرفت

ذکر و فکر از دودمان او گرفت

سید آن کشور مینو نظیر

میر و درویش و سلاطین را مشیر

خطہ را آن شاہ دریا آستین

داد علم و صنعت و تہذیب و دین

آفرید آن مرد ایران صغیر

باہنر ہائی غریب و دل پذیر

یک نگاہ او گشايد صد گره

خیز و تیرش را بدل راہی بده

سلطان زین العابدین کر بعد کر ادوار میں اگرچہ علماء و فضلاء

اور شاعروں اور تاریخ نویسوں کی فہرست طویل ہے لیکن

معروف ترین ادیبوں اور شاعروں اور مؤرخین میں میر شمس الدین

عرائی صاحب کتاب، "احوط" (شیعہ مسلک کے عقائد کے بارے

میں) ملا عبدالوهاب مؤلف، "التعريف فی التصوف" اور، "شرح

موافق" ، ملا حافظ بصیر منطقی اور ریاضی دان، بابا فتح اللہ ،

مولانا محمد آنی ، سید حسین بیہقی ، مولانا رضی الدین ، ملا

ملیحی ، قاضی ابراهیم مؤلف „ تاریخ کشمیر ” اور سید علی مؤلف „ تاریخ کشمیر ” کی نام قابل ذکر ہیں ۔

شہمیری سلاطین کی سقوط کی بعد چک خاندان میں بادشاہت منتقل ہوئی ۔ اس خاندان کا بانی لنگر چک تھا جو شمالی کشمیر کی داردستان علاقے سے کشمیر میں آیا تھا ۔ لنگر چک کی اولاد نے رفتہ شہمیری بادشاہوں کی دربار میں اسقدر اثر و رسوخ پیدا کیا کہ اس خاندان کی آخری ایام اقتدار میں چک امراء بادشاہ گر بن گئے تھے اور بالآخر ، آخری شہمیری بادشاہ سلطان حبیب شاہ کو ۱۵۶۱ء میں تخت سے اتار کر انہوں نے مقتدر اور پرشان و شکوہ خاندان کا خاتمه کیا ۔ اور کشمیر کا شاہی تخت اپنے قبضہ اقتدار میں لے آئے ۔

چک سلاطین کا عہد سلطنت ہندوستان کی مغلیہ بادشاہوں کا ہم عصر زمانہ ہے اور اس خاندان کی صرف چہ بادشاہوں نے کل ستانیس سال (۱۵۶۱ - ۱۵۸۸) حکومت کی ۔ اندر ورنی اور بیرونی کشمکشوں کی باوجود جن سے چک سلاطین کو رو برو ہونا بڑا ، فارسی ادب ترقی و پیشرفت کی راہ کو طے کرتا رہا ۔ یوسف شاہ چک (۱۵۸۸ - ۱۵۸۹) یا (۱۵۸۶ - ۱۵۸۷) اور حسین شاہ چک (۱۵۸۶) سخن فہم بادشاہ ہوئے کی علاوہ خود فارسی میں شعر کہتے تھے ۔ حسین شاہ چک کی زمانہ سلطنت میں ایران سے ملا نامی اول ، ملا نامی دوم ، ملا مہری ، میر علی اور بابا طالب اصفہانی کشمیر میں چلے آئے اور انہوں نے شعر گوئی ، فلسفہ اور منطق کو کافی فروغ دیا ۔ میر علی شعر گوئی کی علاوہ خطاطی میں بھی یگانہ روزگار تھا ۔ یوسف شاہ چک ہندی اور کشمیری کی علاوہ فارسی زبان کا بھی اچھا شاعر تھا اور اس کی کلام کا

نمونہ مقامی فارسی تذکروں میں درج ہے (۱) - بابا طالب اصفہانی اس زمانے کے فارسی شاعروں کا قافلہ سالار تھا - مقامی فارسی شعراء میں ملا محمد امین مستنفی تھا جو یوسف شاہ کے فریبی مصاحبین میں سے تھا اور ملا احمد بھی فارسی شاعر کی حیثیت سے معروف تھا۔

مقامی عالموں اور دانشمندوں ادیبوں اور مؤرخین اور تذکرہ نگاروں میں قاضی موسیٰ شہید، حضرت بابا داؤد خاکتی، حضرت شیخ یعقوب صرفیٰ، بابا علی رینہ، مولوی فیروز ثانی اور مولوی محمد جعفر کے نام قابل ذکر ہیں۔ عالموں اور دانشمندوں کی اس زندہ جاوید صف میں حضرت شیخ یعقوب صرفیٰ، کا نام نامی سر فہرست ہے جنہوں نے نظامی گنجوی کی نقلیہ میں، مسلک الاخیار، وامق و عذر، مغازی النبیٰ، لیلی و مجنون اور مقامات مرشد، نام کی پانچ مشنویوں کا خمسہ لکھا۔ اس کے علاوہ عرفان و معرفت النبیٰ میں مولانا جامیٰ کی پیروی میں لوایح کے طرز پر روایح فارسی نثر میں لکھی ہیں۔ مولانا صرفیٰ کی تصنیفات میں شرح صحیح بخاری، حاشیۃ توضیح و تلویح، مناسک حج، رسالۃ اذکار، کنز الجواہر اور ایک دیوان شعر فارسی بھی شامل ہیں۔ مولانا موصوف دین اسلام کے ایک بلند مقام عالم اور علم حدیث میں بگانہ دھر تھے۔ حضرت مجدد الف ثانی شیخ احمد سرهنڈی علم حدیث میں مولانا صرفیٰ کشمیری کے شاگرد رہ رہے ہیں۔ مولانا صرفیٰ نے تفسیر قرآن، "مطالب الطالبین" کے نام سے لکھی جو ناتمام ہے۔ فیضی کی بی نقطہ تفسیر، "سو اطع الالہام" کے جواب میں آپ نے بھی قرآن مجید کے ایک پارے کی بی نقطہ تفسیر لکھی لیکن اسی پر اکتفا کرنے ہونے فیضی کو لکھا کہ یہ کام

اور وہ سری بھی انجام پا سکتا ہے لیکن یہ بدعت ہے ۔

بابا علی رینہ کشمیر کرے ایک ولی کامل حضرت شیخ حمزہ مخدوم کرے چھوٹے بھائی ہیں جہنوں نے کشمیر کرے بزرگان دین اور عارفوں کے حالات میں تذکرہ لکھا ، اس تذکرہ کا نام ” تذکرہ العارفین ” ہے ۔ مولانا جعفر نے شرعی مسائل پر ” رموز الطالبین ” نام کی کتاب لکھی ۔ چک سلاطین کے مختصر دور سلطنت میں اہم فارسی تاریخیں بھی لکھی گئیں جن میں سید علی ماگرے کی ” مختصر تاریخ کشمیر ” اور ناشناختہ مؤلف کی ” بھارتستان شاہی ” قابل ذکر ہیں ۔

راہ عرفان کے متبدیوں کے لئے میر حیدر تُلہ مُولیٰ نے ” هدایت المخلصین ”، لکھی ۔ شیخ احمد چاگلی نے اپنے مرشد حضرت شیخ حمزہ مخدوم کشمیری کے مقام و مرتبے اور مختلف اذکار کے بارے میں ” رسالت سلطانیہ ” لکھا ۔ خواجہ میرم بازاں نے ” تذکرہ المرشد ” اور خواجہ اسحق قاری نے ” چلچلة العارفین ” لکھی ۔ یہ دونوں حضرت مخدوم کشمیری کے خلفا میں سر تھیں اور انہوں نے اپنے مرشد کے روحانی کمالات و حالات میں یہ کتابیں تصنیف کی ہیں ۔ آپ کے خاص خلیفہ جناب حضرت بابا داؤد خاکی نے آپ کے احوال سلوک میں ” ورد المریدین ” نامی منظوم کتاب لکھی جس کی شرح مولانا خاکی نے خود ” دستور السالکین ” کے نام سے فارسی نہ میں لکھی ۔

غرض ہر چند کہ چک سلاطین کا زمانہ سلطنت ایک مختصر دور تھا تاہم فارسی ادبی تاریخ کے لحاظ سے بھی اہمیت نہیں ، لیکن یہ دور بقول حافظ شیرازی ” خوش درخشید ، ولی دولت مستعجل بود ” ۔

کشمیر کی سیاسی تاریخ میں دسویں صدی ہجری کا زمانہ اس کے بعض اگلے ادوار کی طرح سیاسی انتشار کا زمانہ تھا۔ چک سلاطین کے آخری دور اقتدار میں مغلیہ جلال و سطوت کے غضبناک شعلے کشمیر کی طرف بہڑکر لگئے اور بالآخر کشمیر مغلیہ سپاہیوں کے تجاوز کا شکار ہو کر جلال الدین اکبر کے ہندوستان کا حصہ بن گیا۔

ادبی لحاظ سر مغلیہ دور کشمیر میں خاصاً سود مند اور بار آور رہا۔ کشمیر کو جب جلال الدین اکبر نے فتح کیا تو کشمیر میں فارسی ادب کی پیشافت و ترقی کے دو سو سال سے زائد کا عرصہ گذر چکا تھا۔ لیکن مغلیہ بادشاہوں کی کشمیر کے ساتھ ذاتی دلستگی جو عشق کی حد تک تھی، اور ہندوستانی مہاجر و ایرانی شاعروں کے قافلوں کے کشمیر میں آمد و رفت کے نتیجے میں، فارسی شعر و ادب کی بہار یوں جو بن بلکہ انتہا تک پہنچ گئی۔ مہاجر ایرانی شاعروں کی تعداد جو اکبر، جہانگیر، شاه جہان اور اورنگ زیب کے سفر کشمیر میں ان کے هم رکاب ہوئے تھے کافی بڑی ہے لیکن ان شاعروں میں سر کٹی نام آور فارسی شاعر کشمیر میں ہی مقیم ہو گئے اور وہیں وفات پاکر دفن ہوئے مثلاً بابا طالب اصفہانی۔ (جو چک دور میں ایران سر آیا تھا) عرفی کا مددوچ شاہ ابو الفتح، حاجی محمد جان قدسی مشہدی، ملا طفراء مشہدی، محمد قلی سلیم تھرانی، ابو طالب کلیم ہمدانی، میر الہی اصفہانی، گلشنی شیرازی اور ملا مهری مشہدی۔ مغلیہ بادشاہوں کے ذاتی ذوق، اور شاعروں اور سخن شناسوں کی تربیت، حوصلہ افزائی اور ذوق شعری کو مہمیز دینے میں، نیز نکته سنج شاعروں کو کبھی سونرے میں وزن کرنے اور

کبھی ہیرے اور جواہرات سے ان کو منہ بھر دینے کر کم نظر
حوالہ افزا اقدامات کر زیر اثر کشمیر میں فارسی شاعروں کی
تعداد میں اسقدر اضافہ ہوا کہ کہنا پڑتا ہے یہ دور کشمیر میں
ہندوستان کے تمام صوبوں کے مقابلے میں زیادہ شاعر خیز دور رہا ہے
اور پورے ہندوستان کے شاعروں کی تعداد کشمیری فارسی شعراء
کے مقابلے میں انگشت شمار دکھائی دیتی ہے ۔

اس دور کے شاعروں کی شعری خصوصیات اور ادیبوں کی
تخلیقات کا ذکر کرنا طول کلام کا باعث بنے گا * لیکن معروف
شاعروں ، ادیبوں ، خوشنویسوں اور مؤرخین کے ناموں اور ان کی
تألیفات کا ذکر کرنا بے جانہ ہو گا ۔

مظہری کشمیری (جس نے ایران کا سفر کیا اور مختشم
کاشانی کے ساتھ ملاقات کی) ، اوچی کشمیری ، ملا ذہنی
کشمیری ، ملا صالح کشمیری ، ملا فضیحی کشمیری ، ملا فہمی
کشمیری ، ملا مشتری کشمیری ، ملا بدیعی کشمیری ، فروغی
کشمیری ، ملا محمد طاہر غنی کشمیری ، نافع کشمیری (برادر
غنی کشمیری) ملا محسن فانی کشمیری ، ملا جویا ، ملا گویا ،
بابا داؤد مشکوتی ، ملا ساطع کشمیری ، خواجه معین الدین
نقشبندی (مؤلف مرآۃ طیبہ اور فتاوی نقشبندیہ (۸) میرزا عبدالغنی
بیگ قبول کشمیری ، ملا بینش کشمیری (صاحب « اسرار الابرار »
در بیان مرشد طریقت و مکاشفات وی و مؤلف « اسرار الاشجار »
جس میں آپ نے عطاً کی .. منطق الطیر » کی پیروی کی ہے

* محققین بیرون حسام الدین راشدی کی مرتبہ تذکرہ شعرائی کشمیر در جهار جلد شائع کردہ اقبال
ایئتمی کراجی میں تفصیلات دیکھ سکتے ہیں ۔ دانش ۔

شیخ احمد ابن عبد الصبور کشمیری (مؤلف „ خوارق السالکین ”،
 „ یا „ تاریخ هادی ”) ، شیخ محمد چشتی (مؤلف ، سراج
 السالکین ” ، „ عدة اللقا ” ، „ کنز العشق ” ، جو تصوف کی
 تعریف میں ایک متنوی ہے ، اور „ گنج فقر ” جو فقر کر محاسن
 میں لکھی ہے) ، میرزا اکمل الدین بیگخان کامل بدھسٹی (صاحب
 متنوی „ بحر العرفان ” جو چار جلدیں میں اسی ہزار اشعار بر
 مشتمل عارفانہ متنوی ہے اور قصیدہ „ مخبر الاسرار ” (۹) ، وجود
 مطلق ، وجود آدم اور سلسلہ بزرگان طریقت کے بارے میں ، شیخ
 عبدالوهاب نوری (مؤلف ، فتحات کبرویہ ” ، کبروی سلسلہ کے
 بزرگان کا تذکرہ نیز صاحب ، منتخب التواریخ ”) ، حیدر ملک
 چاذورہ (مؤلف ، تاریخ کشمیر ”) ، میر کمال الدین رسو ، خواجہ
 علی اکبر ، ملا مراد زرین قلم ، محمد محسن شیرین قلم ، محمد
 رفیع منشی ، رفیع الدین غافل (مؤلف ، تاریخ نوادر الاخبار ”)
 منعمی کشمیری (مؤلف تاریخ ، گوہر عالم ”) ، ملا محمد رضا
 مشتاق کشمیری (صاحب دیوان شعر ، اور صاحب متنوی ، قضا و
 قدر ”) ، ملا اشرف یکتا ، خواجہ محمد اعظم دده مری (صاحب ،
 تاریخ اعظمی ” یا ، واقعات کشمیر ” ، مؤلف رسائلہ های : تجوید
 الطالبین ، فوائد الرضا ، قواعد المشائخ ، اشجار الخلا ، نمرات
 الاشجار ، رسائل الاعظم ، وسیلة الاصول الى دیار الرسول ، شمائل
 نبوی و ستایش پیغمبر ، اثبات الجھر اور شرح کبریت احمر) .
 غرض کشمیر میں مغلیہ بادشاہوں کا دور فارسی زبان و ادب
 کے رواج اور فروغ کے لحاظ سے نہ صرف اگلے دور کو زندہ رکھنے کا
 دور تھا بلکہ غیر معمولی طور پر ثمر بخش دور تھا جبکہ فارسی
 ادب کے آسمان پر بہت سے کشمیری فارسی شاعر جلوہ گر ہونے

جن کی شہرت ہندوستان کی جغرافیائی حدود سے بھی گذر گئی ۔
 ہندوستان میں مغلیہ بادشاہت کے خاتمے پر کشمیر افغانوں (۱۸۵۲ - ۱۸۱۹) کے دست اقتدار میں چلا گیا ۔ افغان دور میں
 اگرچہ مجموعی طور پر سخن سنجی اور شعر شناسی کے بازار کی
 رونق ماند پڑ گئی لیکن پھر بھی کابل سے افغان بادشاہوں کی
 جانب سے جو افغان گورنر کشمیر بھیج جاتے تھے ان کی مادری
 زبان فارسی ہونے کی وجہ سے کشمیر میں فارسی شاعروں، ادیبوں
 اور مؤرخوں کی سرپرستی جاری رہی لیکن افسوس ہے کہ ان کی
 تعداد تسلی بخش نہیں ۔ اس کی اہم وجہ یہ ہے کہ معنوی اور
 ظاہری تعلقات پوری طرح، ٹوٹ گئے اور کشمیری ادیب، دانشمند
 اور شاعر لوگ کابل تک راستے کی دوری و مسافت کی بنا پر
 آمد و رفت پیدا نہ کر سکے ۔ نیز افغانوں کی غیر عاقلانہ سیاست
 کی وجہ سے چونکہ کشمیریوں کی اجتماعی زندگی کو ناقابل
 تلافی صدمات سے دوچار ہونا پڑا اس لئے کشمیری فراغ خاطر کے
 ساتھ علم و ادب کی ترویج کی طرف مائل نہ ہو سکے ۔ نتیجہ یہ
 ہوا کہ کشمیر میں فارسی ادب کے زوال کا دور شروع ہوا ۔ افغان
 دور نہ فقط بزرگ اور ماهر ادیبوں اور شاعروں کے وجود سے خالی
 ہے بلکہ تخیل شعری سے بھی عاری ہے ۔ افغان دور میں راجہ
 سکھ جیون مل گورنر (حاکم) کا نام کشمیر کی فارسی ادبی
 تاریخ میں قابل ذکر ہے ۔ راجہ سکھ جیون مل خود شعری ذوق
 رکھتا تھا اور گاہ بگاہ شعر بھی کہتا تھا ۔ شاعروں کا مرتبی تھا اور
 ان کو انعامات سے نوازتا تھا ۔ راجہ موصوف نے „ شاہ نامہ کشمیر
 ” لکھوائی کی غرض سے ایک علیحدہ ادارہ قائم کیا اور اپنی ذاتی
 نگرانی میں اسر لکھوایا تھا ۔ ہر شعر کے لئے ایک روپیہ انعام مقرر

کیا اور شاہ نامہ کشمیر کو نظم میں لکھنے کا کام اس نے وقت کرے منتخب سات اچھے شاعروں کے سپرد کیا جن کے نام یہ ہیں : ملا محمد توفیق ، ملا محمد علیخان متین ، محمد جان سامی ، رحمت اللہ نوید ، ملا راحح ، عبدالوهاب شایق ، اور سعد اللہ شاہ آبادی ۔ اس دور کے مشنوی نگاروں میں سعد اللہ شاہ آبادی سرفہرست ہے جس نے .. باغ سلیمان ، نام کی مشنوی حاکمان شهر کے ظلم و جور کے بیان میں لکھی ہے ۔ اس کے علاوہ ایک اور مشنوی حضرت پیغمبر کی سیرت طیبہ پر لکھی ہے جس کا نام .. منظوم السعد ، ہے ۔

ملا اشرف بلبل نے خمسہ لکھا جو ان مشنویوں پر مستعمل ہے : رضانامہ ، هشت اسرار ، هشت بہشت ، مہرومہ ، اور ہیمال ناگرانہ ۔ ہیمال اور ناگرانہ دو کشمیری عاشق و معشوق نہر ، ہیمال عورت اور ناگرانہ (یا ناگ راج) مرد تھا ۔

اس زمانے کے شاعروں ، عالموں اور مو رخین میں مندرجہ ذیل نام قابل بیان ہیں :

پنڈت دیارام کاچرو خوش دل ، جو کشمیری برهمنوں میں افغان دور کا ایک خوش ذوق و خوش طبع شاعر تھا ۔ ملا عطاء اللہ خانقاہی مؤلف ، " خزینۃ الاعدادیہ " (یہ کتاب علم ریاضی سے متعلق ہے) - شیخ محمد چشتی جس نے ، " زبدۃ الآثار " کے نام سے حضرت شیخ عبدالقدیر جیلانی کے رسالہ ، " بہجت الاسرار " کا فارسی نظر میں ترجمہ کیا (۱۰) ۔ پنڈت بیربل کاچرو مؤلف ، " تاریخ کشمیر " محتشم خان فدا ، پنڈت بھوانی داس کاچرو نیکو ، شیخ محمد رفیقی مؤلف ، " تحفة الاحباب " و " مصایح الدجی " (یہ دونوں مشنویاں پندو نصایح اور اصلاح اخلاق کے بارے میں لکھی

گئی تھیں) خواجہ عبدالکریم کشمیری مؤلف،، بیان واقع،، (یہ کتاب،، نادر نامہ،، اور،، تاریخ نادر،، کریں نام سے بھی مشہور ہے۔ مؤلف دہلی میں نادر شاہ کا وزیر رہا ہے)۔ احسن اللہ خان راضی، لطف اللہ بیگ صہبیا، شرف الدین خان فرحت، اسد اللہ شگون، عطاء اللہ هما اور ملا حسینی کشمیری مؤلف،، عجائب البلدان،، (یہ کتاب جغرافیہ سے متعلق ہے)۔

افغان دور کریں خاتمی کریں بعد کشمیر اور کشمیریوں کریں لئے ایک نہایت ہی پر آشوب اور مصیبت بار دور شروع ہوا۔ یہ سکھوں کا دور تھا جس میں یہ جاکشت و خون ہوا اور ناقابل تلافی ویرانی، تباہی اور بربادی ہوئی۔ اگرچہ سکھ حکمرانوں کا دور اٹھائیں سال کی مختصر مدت کا تھا لیکن ظلم و جور، آمریت، نسلی تعصُّب، سیاسی جہالت اور قتل و غارت میں اس قدر طویل تھا کہ آج بھی کشمیر میں جب ہم ناپرانی کی عالم کا ذکر کرتے ہیں تو سکھا شاہی، کی اصطلاح کا استعمال کرتے ہیں۔ ایک خاص کشمیری فرقے پر سکھوں کریں غیر معمولی اور غیر انسانی ظلم و جور کو روا رکھئے کریں نتیجے میں علم و ادب کی راہیں مسدود ہوئیں اور گاہ بگاہ اور خال خال ہی اس مخصوص فرقے کے عالم اور شاعر لوگ سخن سنجی اور مجموعی طور پر ادب کی طرف متوجہ ہوئے۔ گو کہ ایسے علماء اور دانشمندوں میں چند برهمن مؤرخین بھی شامل تھے۔ لیکن مجموعی طور پر اس دور میں فارسی ادب کے آفتاب کی وہ پہلی سی روشنی نہ رہی۔ اس دھیمی روشنی میں جو غروب آفتاب کی تھی بعض نام سامنے آئے ہیں جو فصاحت کلام اور روانی سخن کے لحاظ سے چند اہم نہیں۔ سکھ دور (۱۲۳۳ - ۱۲۶۲ھ) کے بعض مؤرخین اور شعراء

کئے نام یہ ہیں - بابا کمال الدین مولف،، نور نامہ، (یہ کتاب کشمیر کے قابل احترام و افتخار عارف بزرگ حضرت شیخ نور الدین ریشی کے حالات پر ہے) - حمید اللہ شاہ آبادی صاحب خمسہ جس میں،، اکبر نامہ، نام کی متنوی بھی شامل ہے۔ اس کے علاوہ حمید اللہ نے سکھوں کی ناعاقبت اندیشی اور ظلم و جور کی تنقید میں،، ناپرستان نامہ، (کشمیری نام، بیبوج نامہ، یعنی بیکسی اور اندهاپن) اور کشمیری نمکین چائز، نان کلوچہ، دودھ، چائز کے جوش اور ابال اور سماور کی تعریف میں،، چائز نامہ، متنویان لکھی ہیں - پنڈت بیربل کاچرو وارستہ مؤلف،، مختصر التواریخ " جو،، مجموع التواریخ " سے بھی موسوم ہے - مؤلف نے سکھوں کے دور میں اس تاریخ کو اختتام تک پہنچایا تھا اور افغان دور میں اس کا آغاز کیا تھا -

سکھ دور کے زوال کے بعد کشمیر میں جموں کے ذوگہ راجوں کا دور شروع ہوا اور سال ۱۹۴۷ء تک جب ہندوستان انگریزوں کی حکومت سے آزاد ہوا قائم رہا۔ یہ دور بھی فارسی ادب کے اس سکھ دور کی غروب والی دھیمی روشنی کا دور تھا جو رفتہ رفتہ مکمل زوال پر آپہنچا - ذوگہ راجگان فارسی زبان سے نہ کوئی آشنائی رکھتے تھے اور نہ ہی ان میں شعر فہمی کا ملکہ تھا۔ انہوں نے اپنی تمام تر توجہ سنسکرت زبان و ادب کے احیاء کی طرف مبذول کی - مہاراجہ رتبیر سنگھ نے، جو ذوگہ راجوں کے پیشوؤں میں تھا، سنسکرت کے نشو و نما کی خاطر ایک دار-ترجمہ کی بنیاد ڈالی اس دارالترجمہ میں طب، فلسفہ اور دیگر علوم سے متعلق لکھی گئی عربی اور فارسی کتابوں کا سنسکرت زبان میں ترجمہ ہوا۔ لیکن اس کے باوجود بھی فارسی زبان پہلے

ہی کی طرح رسمی زبان کر طور پر جاری رہی کیونکہ چھ سو سال کی طویل مدت سے چلی آئر والی یہ پرمایہ و مستحکم زبان، جس نے مکمل طور پر کشمیر کی معاشرتی، تمدنی اور ادبی زندگی میں اپنی جزیں سخت مضبوط کر کر اپنی یکتاںیت اور انفرادیت کا سکھ منوالا تھا، آسانی سے نظر انداز نہیں کی جا سکتی تھی۔ لیکن بہر حال انگریزوں نے اپنے دوران حکومت میں جس تیزی کر ساتھ اور نسلی تعصب کو بروئی کار لائز میں خود اپنے تمدن اور اپنی زبان کو پھیلانے کے اقدامات کثیر اس کی حدت میں ہندوستان بھر میں فارسی زبان و ادب سکڑ کر رہ گئی اور نئے ماحول کی نذر ہو گئی۔ کشمیر میں بھی مقامی ڈوگرہ راجوں کی عدم سربرستی اور سکھوں کے عہد میں اس کے زوال کے آغاز کے پیش نظر فارسی زبان انسسوں صدی کے اواخر سے ہی ایک ادبی اور حکومتی زبان کی حیثیت سے نہ صرف نظر انداز کی گئی بلکہ مکتبوں اور دوسرے تعلیمی اداروں میں اس کے پڑھنے والوں اور اس کے ادب کے محققین و علماء کی تعداد میں کافی کمی ہو گئی اور اب چند انفرادی حلقوں میں سنسکرت کی طرح ایک قدیم کلاسیکی زبان اور ادب کی حیثیت سے اس کا مطالعہ محدود ہو کر رہ گیا ہے۔

کشمیر میں فارسی زبان و ادب کی اگرچہ اگلی سی رونق اور بہار باقی نہیں رہی لیکن مشی نہیں ہے۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے اور بڑی اہم وجہ، کہ کشمیری مسلمانوں کے نزدیک بالخصوص، اس کے ساتھ ایک دینی احترام وابستہ ہے جب کہ کشمیر میں دین اسلام کی تبلیغ اسی زبان میں ہونی اور اسی زبان میں حمد و نعمت اور منقبتیں ان تک پہنچیں اور خود انہوں نے

بھی تصنیف کیں۔ موجودہ دور میں بھی مسجدوں اور خانقاہوں میں حمد و نعمت اور بزرگان دین کی تعریف میں منقبتیں فارسی میں ہی بڑھی جاتی ہیں۔ چنانچہ اس طرح کی منقبتیں اور حمد و نعمت ان لوگوں کو بھی سینہ بہ سینہ از برہیں جنہیں بظاہر تعلیم و تعلم سے کوئی تعلق نہیں۔ علاوہ اس کرے حال و قال کی مجلسوں میں فارسی مثنویوں اور ایران کے نامور عارفوں کے کلام کو ایرانی اور مقامی سازوں پر بجانب اور محظوظ ہونے کی روایت بدستور باقی ہے۔

فارسی زبان و ادب کی صدیوں پرانی روایت اور زرخیز ماضی کی کربنیں اب بھی کشمیر میں باقی ہیں۔ کلاسیکی فارسی اسالیب کی پیروی میں اب بھی چند ایسے صاحب طرز فارسی شاعر موجود ہیں جو روشن ماضی کا آئینہ ہیں۔ اب بھی ایسے صاحب فن موجود ہیں جو تاریخ گونی میں اگلوں کی سی مہارت رکھنے ہیں اور آج بھی اگر کسی مسجد کی تعمیر یا خانقاہ بنانی مطلوب ہو تو فارسی زبان میں ہی تاریخ آغاز و انجام کر قطعات لکھنے جائز ہیں۔

فارسی کشمیر میں چھٹی جماعت سے پڑھائی جاتی ہے، یونیورسٹی کے پی ایچ ڈی درج تک ابھی تسلی بخش تعداد ہے اور امید کی جاتی ہے کہ جو طلباء طالبات ایم اے اور پی ایچ ڈی سے فارغ التحصیل ہونگے اور ہوتے رہیں گے یا ہو چکر ہیں وہ اس مشعل کو خاموش نہیں ہونے دیں گے۔

حوالی اور مأخذ

- ۱ - سیک شناسی (جلد سوم) تألیف ملک الشعراہ بیمار صفحه ۲۵۶ از انتشارات مؤسسه امیر کبیر تهران ۱۳۵۵ ش.
- ۲ - راج ترنگنی * (انگریزی) از سیان جلد ۵ صفحہ ۱۱۰ بحوالہ سلاطین کشمیر از محب الحسن صفحہ ۲۵۳ ، مطبوعہ اعظم گذہ.
- ۳ - سلاطین کشمیر از محب الحسن صفحہ ۵۵ مطبوعہ اعظم گزہ، واقعات کشمیر از خواجه محمد اعظم دیده مری صفحہ ۳۱ ، مطبوعہ غلام محمد نور محمد تاجران کتب مهاراج گنج سری نگر، ۱۹۳۶.
- ۴ - ایضاً
- ۵ - تاریخ حسن از بیرون غلا حسن کویہامی صفحه ۱۸۷ جلد دوم مطبوعہ شعبہ تحقیقات حکومت جموں و کشمیر.
- ۶ - تاریخ حسن جلد دوم صفحہ ۲۰۶ ، سلاطین کشمیر از محب الحسن صفحہ ۱۲۰ بحوالہ طبقات اکبری جلد سوم صفحہ ۳۲۹.
- ۷ - تاریخ حسن ، جلد دوم صفحہ ۳۱۱ مطبوعہ شعبہ تحقیقات حکومت جموں و کشمیر ، واقعات کشمیر از خواجه محمد اعظم دیده مری ، صفحہ ۹۲ مطبوعہ غلام محمد نور محمد سری نگر ۱۹۳۶.
- ۸ - واقعات کشمیر صفحہ ۱۶۸
- ۹ - واقعات کشمیر صفحہ ۲۲۳ ، پارسی سرابان کشمیر بحوالہ تذكرة الشعراہی کشمیر از سید حسام الدین راشدی ، جلد اول صفحہ ۱۱۱ - ۱۱۲ ، مطبوعہ اقبال اکادمی ، کراچی.
- ۱۰ - واقعات کشمیر صفحہ ۲۲۱ ، مطبوعہ غلام محمد نور محمد تاجران کتب مهاراج گنج ، سری نگر کشمیر ، ۱۹۳۶.

یہ کتاب فارسی زبان میں مرکز تحقیقات ایران و پاکستان سے ۱۹۵۳ء میں شائع ہو چکی ہے:
 (دانش).

رواج زبان فارسی صد سال پیش درستند

„به جمیع صاحبان خوبی انگریزی دان و یا قدری درک داران به ویژه احسن ظاهر و باهر است که عبارات و اصطلاحات و استعارات و رسوبات و عادات وغیره زبان انگریزی به مذینظر عبارات و اصطلاحات و استعارات و رسوبات و عادات وغیره زبان فارسی بالکل تفاوت دارد. از خوشامد و تناگویی بیزار و معرا من باشند. و راقم آن این نسخه را به نسبت عبارات و اصطلاحات و استعادات و رسوبات و عادات وغیره به ترتیب زبان فارسی مرتب نموده است. به لحاظ چندین وجوده ضروریات:

اولاً: کتاب انگریزی به وضع عام در هر چایی و مکان به طور عام در مطالعه نمی آید و این نسخه فارسی در هر کوچه و بازار و هر جایی عام طور در خواندن خواهد درآمد

(«خیرپور نامه » تألیف خان پهادر خدا داد خان . در ۱۳۱۱ هـ)

اشتهای طعام و اشتهای کلام

عبدالقادر بداؤنی مؤلف تاریخ بداؤنی گوید که روزی ملا عالم گل بهاری کابلی ریبعی تخلص (م ۹۹۲ هـ) میرزا نظام الدین احمد مرحوم و فقیر را بامداد به منزل خود برده . مجسون اشتهای طعام آورده خورانید و کتابهای خود بنمود و از صباح تا نیمروز گرسنگی کشیدیم . آخری طاقت شده طعام خواستیم . گفت : مایخال کرده بودیم که شما خورده آمده باشید . به هر حال چند بیتی بروزن سلسلة الذهب (جامی) که گفته آن نسخه را «سلسلة الخاص » نامیده و دیگر کتب بیهوده تألیف نموده اسمی موهوم گذاشته بود . چون همه را دیدیم گرسنه برخاسته آمدیم .
(حدیثه هندی تألیف بهگوان داس هندی)

سید جمیل احمد رضوی *

فائز دہلوی کلیات کا تعارف اور انتخاب کلام

هر آنکس دید دیوان مرا گفت
کہ فائز از گھر گنجینہ دارد
ان کا نام صدر الدین محمد خان تھا ، بن زبردست خان بن
ابراهیم خان بن علی مردان خان اردو اور فارسی دونوں زبانوں میں¹
شعر کھتھر تھے اور ، ، فائز ، ، تخلص کرتھر تھے ، فائز کئے پردادا علی²
مردان خان ، شاھجہان کئے منصب دار تھے - دادا ابراهیم خان
عالملگیر کئے منصب دار اور کشمیر کی صوبہ دار تھے ، اور والد
(متوفی ۱۱۲۵ھ) بھی عالملگیر کی طرف سے پنجاب اور اجمیر کئے
صوبہ دار مقرر ہوئے -

فائز ۱۱۰۰ھ کئے لگ بھگ بیدا ہوئے اور صفر ۱۱۵۱ھ میں³
شاھجہان آباد میں وفات پائی - وہ خود بھی امراء میں سر تھے -
فائز کئے معروف فارسی شاعر شیخ علی حزین (م ۱۱۸۰ھ) کی

* ولادت : ۱۰ اکتوبر ۱۹۳۱ء بمقام دلیل بور نزد کلانور (بھارت)۔ علم کتاب خانہ میں تخصص ہے۔

پنجاب یونیورسٹی لاہور کی ڈپٹی جیف لائبریری میں ہے۔

آثار : ۱ - معجم مصادر اسلامی ۲ - پنجاب یونیورسٹی اور اقبال - تحقیقی مقالات کا کتابیاتی جائزہ

۳ - پنجاب یونیورسٹی میں عربی مخطوطات کی دستی فہرست۔

ساتھ دوستانہ تعلقات تھے - حزین کر بتبیس (۳۲) خطوط فائز کرے
نام ہیں۔ ان سے فائز کرے بارے میں کئی باتیں معلوم ہوتی ہیں۔

فائز کا اردو کلام پہلی بار سید مسعود حسن رضوی ادیب نے
مرتب کیا جو „شمالي هند میں اردو کا پہلا صاحب دیوان شاعر
نواب صدر الدین محمد خان فائز دہلوی اور اس کا دیوان“ کرے
عنوان سے ۱۹۳۲ء میں انجمن ترقی اردو دہلوی نے شائع کیا۔ اس پر
قاضی عبدالودود نے تنقیدی تبصرہ لکھا تو سید ادیب نے اسے از سر
نو ترتیب دیا اور بعض اضافات کرے ساتھ اس کا دوسرا ایڈیشن
۱۹۶۵ء میں اسی ادارے نے شائع کیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ
فائز کا اردو کلام اس صدی کے پانچویں عشرے کے شروع میں منظر
عام پر آ چکا تھا۔ لیکن ان کے فارسی کلام اور دیگر فارسی
تصانیف پر ابھی تک خاطر خواہ توجہ نہیں دی گئی۔ یہاں ان
کی فارسی تصانیف کے نسخوں کا تعارف اور فارسی کلام کا
انتخاب پیش کرنا مقصود ہے۔

کلیات فائز کے نسخے :

اب تک کلیات فائز کرے چہ قلمی نسخوں کا ہمیں علم ہو
سکا ہے۔ جن کی تفصیل مندرجہ ذیل ہے :

قومی عجائب گھر کراچی کے دو نسخے (۲)

پہلا نسخہ (شمارہ ۳۸۰، ۳۸۹، ۳۸۸ - ۱۹۵۸ ن - م) عمدہ

نستعلیق خط میں لکھا ہوا ہے اور اس پر مصنف کی مہر موجود
ہے۔ بے ۱۶۲ صفحات پر مشتمل ہے۔ فائز نے اپنے کلیات پر جو
خطبہ لکھا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ دن میں ایک سو بیس
اشعار کہتے تھے۔ فائز نے اس خطبے میں فردوسی کے شاہنامہ،
جامی کی مشتویات۔ خسرہ و شیرین، لیلی و مجنون، خردناہمہ،

اسکندری اور یوسف و زلیخا اور فیضی کی متنوی نل و دمن پر زبردست تنقید کی ہے۔ اس نسخہ کی مشمولات کی ترتیب اس طرح ہے :

۱ - خطبہ کلیات، در مباحث شعر و صنایع شعری (ص ۲ - ۳۵) ۲ - خطبہ کلیات، بتکرار (ص ۳۸ - ۹۵)، آغاز : الحمد لمن ابتدع نوع الانسان و کمله و احسن خلقه و انطق لسانه ۳ - رقعات الصدر، به تتر، در نکات معنوی و مناسبات لفظی و صنایع که بدوسستان مرقوم نموده، (ص ۹۶ - ۱۶۲)، آغاز) حمدله ... اما بعد این رقعاتی چند است که احقر انام ... برای جمعی از احباب مرقوم نموده .

دوسرانسخہ (شماره ۳۷ - ۱۹۵۸ ن. م) بھی عمدہ نستعلیق میں لکھا گیا ہے۔ کاتب کا نام احمد علی ہے۔ اگرچہ اس پر تاریخ کتابت درج نہیں ہے لیکن اس پر جو مهر ثبت ہونی ہے اس میں تاریخ ۱۲۳۶ھ پڑھی جاتی ہے۔

کلیات کا یہ نسخہ ۵۸۳ صفحات پر مشتمل ہے۔ پہلا حصہ فارسی تصانیف پر مبنی ہے اور آخری حصہ میں اردو منظومات ہیں مندرجات کی ترتیب و تفصیل اس طرح ہے :

- ۱ - قصاید، ۲ - قطعات، ۳ - غزلیات، ۴ - رباعیات، ۵ - مستزاد و چیستان، ۶ - مخمسات، ۷ - مربع تراکیب، ۸ - ترکیبات، ۹ - ترجیعات، ۱۰ - تسمیط، ۱۱ - مفردات، ۱۲ - بحر طویل، ۱۳ - مرانی، ۱۴ - متنیات در بحر متنوی مولوی و معراج الخيال، (بدین ترتیب : ۱ - نورس خیال (ص ۲۶۲ - ۲۶۸) آغاز : ابتدای نام از نام خداست۔ بر زبانم نام او جل و علاست، ۲ - متنوی دوم در سخن گفتن شمع و پروانہ باهم، آغاز : گفت با شمعی شبی پروانہ

ای - عاشقی از خویشتن بیگانه ای (ص ۲۶۸ - ۲۸۳) ، ۳ - رقهه ،
 ۴ - مثنوی در نکوهش احتیاج و خوبی اقبال) ، ۱۵ - مثنویات در
 بحر شاهنامه و سکندر نامه ، (بدین ترتیب : ۱ - مفرح القلوب (ص
 ۲۸۲ - ۲۸۸) آغاز : بیا بشنو از من سخنهای چند - باشد برایت همه
 سودمند ، ۲ - مثنوی در تعریف اسب عراقی مسمی به میرزا واهب ،
 ۳ - مثنوی در تعریف جامع مسجد لاهور ، ۳ - رزمیه ، ۵ - تعریف
 حمام ، ۶ - تعریف مجلس سالگرہ ، < - تعریف عمارت باغ پیشاور ،
 ۸ - تعریف پان ، ۹ - تعریف شهر لاهور ، ۱۰ - رقهه برای مطلوب ،
 ۱۱ - شکایت احوال ، ۱۲ - تعریف شاهجهان آباد ، ۱۶ - مثنویات
 در بحر خسرو و شیرین نظامی و زلالی ، (بدین ترتیب : ۱ - قضا و
 قدر (ص ۳۲۰ - ۳۲۷) آغاز : شنیدم این حکایت از جوانی - چو
 گل رنگین کلامی خوش بیانی ، ۲ - تعریف باغ ابراهیم آباد
 (سودهره ضلع گوجرانواله) ، ۳ - شکوه از فلک ، ۳ - رقهه ، ۵ -
 بدیع الخيال ، ۶ - مناظرة مور و مگس ، < - تعریف اسب ، ۸ -
 مذمت اسب ، ۹ - تعریف مکتوب ، ۱۰ - تعریف عمارت و حمام
 دهلی) ۱۸ - مثنویات در بحر لیلی و مجنون نظامی و جامی و نل و
 دمن فیضی ، (بدین ترتیب : ۱ - تعریف دهلی ، ۲ - ریاض الجنان (ص
 ۳۸۳ - ۳۸۲) آغاز : این نامه نو که بزرگانست - بر نام خدای
 انس و جانست ، ۳ - رقهه ، ۲ - احوال گیتی) ، ۱۸ - مثنویات در
 بحر حدیقة الحقيقة سنائی و هفت پیکر نظامی ، (بدین ترتیب : ۱ -
 نزهه الارواح (ص ۳۸۸ - ۳۹۲) درباره جشن نوروز ، آغاز : یافت
 ترتیب روز نوروزی - خانه ام مجلس دل افروزی ، ۲ - رقهه ، ۳ -
 تعریف تیره ، ۳ - رقهه ، ۵ - شکوه از فلک ، ۶ - تعریف آئینه خانه
 < - حکایت عقرب و سنگ پشت (لاک پشت)) ۱۹ - مثنویات در

بحر مخزن الاسرار نظامی و نقش بدیع غزالی ، (بدینترتیب : ۱ - حمد و توحید ، ۲ - خلاصه الافکار ، ۳ - رقعت ، ۴ - حسرت و افسوس و ناسازگاری چرخ کج رفتار ، ۵ - وصف بهار ، ۶ - مکالمہ گل و بلبل) ، ۲۰ - مشنویات در بحر سبحة الابرار جامی و بدن نمای مهری (بدین ترتیب : ۱ - بدن نمای در تعریف یار ماہ سیما (ص ۳۲۶ - ۳۳۱) آغاز؛ بشنو از من سخن ای صاحب هوش - شو مرا پا همه تن چو گل گوش ، ۲ - تهنیت عبد فطر ، ۳ - وصف گلهای هندوستان ، ۴ - سنگار برن (یعنی آرایش و زیبایش بشیوه هندی) ، ۲۱ - مشنویات در بحر های غیر مشهور (سوای هفت بحر مشهور ۲۲ و ۲۳ - لطائف و غزلیات (بدین ترتیب : ۱ - ساقینامه (ص ۳۵۲ - ۳۶۶) آغاز؛ بهار است و دل بی شکیب و قرار - بیاد می ساقی گل عذر ، ۲ - افترا نامه ، ۳ - عاملی نامه ، ۴ - آتش نامه ، ۵ - بارش نامه (باران نامه) ، ۶ - حویلی نامه (حویلی یعنی خانه بزرگ) ، ۷ - درگاه نامه ، ۸ - نهان نامه ، (در رد هنود) ، عروسی نامه ، ۹ - فصول نامه ، ۱۰ - خرابات نامه ، ۱۱ - قناعت نامه ، ۱۲ - شکایت نامه ، ۱۳ - قحط نامه (قصہ قحط در پنجاب) ، ۱۴ - نکاح نامه) ، ۲۳ - غزلیات ریخته (اردو) ، ۲۵ - مشنویات ریخته (اردو) ، ۲۶ - ملمعتات ، ۲۷ - خاتمه در مواعظ و نصایح .

ذخیرہ شیرانی جامعہ پنجاب لاہور کا نسخہ :

شمارہ ۲۱۹۸ اور ۲۱۹۹ ، اندرج نمبر ۵۲۰۹ اور ۵۲۱۰. تقریباً

بیس سال پہلے اس کی جلد بندی اور مرمت کروائی گئی - جلد ساز نے اس کی پہلی جلد کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا ہے - اس طرح یہ دو حصوں میں مجلد ہے - حصہ اول ورق ۲۰۲ پر ختم ہو جاتا ہے - حصہ دوم ورق ۳۱۸ پر مکمل ہوتا ہے - ورق شماری کر

وقت جلد ساز کر شروع میں لگائیں گئی زائد اوراق کو بھی غلطی
منہ شامل کر لیا گیا ہے۔ اس طرح پہلے حصر میں پانچ اوراق زائد
شمار کئی ہیں۔ اسی طرح دوسری جلد میں بھی پہلے پانچ زائد
اوراق کو کتنی میں شامل کر لیا ہے۔ ورق شماری میں ایک اور
غلطی نظر آتی ہے۔ پہلی جلد کا دوسرا حصہ ورق ۲۰۳ سے شروع
ہوتا ہے لیکن اس پر ۲۱۳ لکھ دیا گیا ہے۔ اس طرح دس زائد
اوراق شمار میں آگئیں ہیں۔

زیر نظر مخطوط طبع کرے ہر صفحہ پر ستھرے سطرین ہیں۔ صفحہ
کا سائز ۱۸x۲۸ س م ہے۔ خط نستعلیق اور دیدہ زیب ہے۔ قلم
جلی ہے۔ امتداد زمانہ سے یہ کتنی مقامات سے ناقص ہونے کی وجہ
سے پڑھا نہیں جاتا۔ اس کی کتابت ۱۱۳۹ھ میں مکمل ہونی۔
کلیات کی یہ نقل مصنف کی فرمانش پر تیار کی گئی۔ یہ بات
ترقبی سے معلوم ہوتی ہے اس میں سال کتابت بھی موجود ہے۔
مخطوط طبع کی ابتداء ان الفاظ سے ہوتی ہے۔

خطبہ دیوان کلیات فائز : الحمد لمن ابتدع الانسان و كمله و
احسن خلقہ و انطق لسانہ و افصح مقالہ و صلی اللہ علی محمد و الہ
الطيبین و اصحابہ الراشدین اما بعد چنین گوید احوج عباد صدر
الدین محمد بن زبردست خان ...

دوسری جلد میں آخری غزل کا مقطع یہ ہے :
شکر اللہ کہ بکام دل خود یافتہ ام

فائز از قندلب او بدھان شیرینی

اس جلد کا اختتام اس عبارت پر ہوتا ہے :

الحمد لله کہ این نسخہ غزلیات دیوان فائز بر لفظ شیرینی
باتعم رسید، امید کہ صاحبان ملک سخن ازین خوان نعمت درهمہ

وقت شیرین کام گردند ،
کتبہ العبد المذنب الراجحی احمد ... حسب الامر نواب صاحب و
قبلہ عالمیان مآب نواب صدر الدین محمد خان شاہجہان آباد در
۱۱۲۹ھ قلمی نمود .

فائز کی وفات ۱۱۵۱ھ - ۱۸۳۲ء میں ہوئی جبکہ اس نسخے
کی کتابت ۱۱۲۹ھ میں ہوئی - شیرانی مرحوم نے اپنے ایک نوٹ
میں اس مخطوطے کے متعلق لکھا ہے کہ یہ نسخہ مصنف ہے یا
مصنف کے پاس رہا ہے - ممکن ہے ترقیع کی عبارت سے انہیں اس
نتیجے پر پہنچنے میں مدد ملی ہو -

مندرجات :

پہلی جلد کے شروع میں ایک صفحہ میں بیت شماری ہے اور
اس کے بعد تین اوراق پر مندرجات کی تفصیل ہے - نسخے کے شروع
میں جلد بندی کے بعد ۱۹۶۷ء میں رشید احمد کے قلم سے بھی
مندرجات کی تفصیل کو نقل کیا گیا ہے - اس تفصیل کو اوراق کے
تعین (ا و ب) کے ساتھ ذیل میں درج کیا جاتا ہے -

جلد اول ، حصہ اول : بیت شماری ۶ ب ، تفصیل مندرجات > ب تا
۱۹ ، خطبہ کلیات فائز (دیاچہ از مصنف) ۱۰ ب تا ۱۳۳
، قصائد ۳۳ ب تا ۱۱۰ ، قطعات > ۱۰ ب تا ۱۳۲ ، مستزاد و
چیستان > ۱۳۲ ب تا ۱۱۳۱ ، مخمسات ۱۳۱ ب تا ۱۱۳۸ ، مریع
ترکیب ۱۲۹ ب تا ۱۵۵ ا ، ترکیبات ۱۵۵ ب تا ۱۱۳ ،
ترجمیات ۱۶۳ ب تا ۱۱۰ ا ، مفردات ۱۸۰ ب تا ۱۱۸۳ ،
مراثی ۱۸۳ ب تا ۱۱۹۶ ، بحر طویل ۱۹۶ ب تا ۱۱۹۸ ،
تسمیط ۱۹۸ ب تا ۲۰۲ .

جلد اول حصہ دوم مثنویات در بحر مثنوی رومی ۲۱۳ ب تا ۲۳۲ ب ، مثنویات در بحر شاه نامہ و سکندر نامہ ۲۳۳ ب تا ۲۶۸ ب ، مثنویات در بحر خسرو و شیرین نظامی و زلالی ۲۶۸ ب تا ۲۹۳ ب ، مثنویات در بحر لیلی و مجنون نظامی و جامی ۲۹۳ ب تا ۳۱۱ ا ، مثنویات در بحر حدیقه سنائی و هفت پیکر نظامی ۳۱۱ ب تا ۳۳۱ ب ، مثنویات در بحر مخزن الاسرار نظامی و نقش بدیع غزالی ۳۳۲ ب تا ۳۳۵ ب ، مثنویات در بحر سبحة الابرار جامی و بدن نمای مهری ۳۳۶ ب تا ۳۶۱ ا ، لطائف (ساقی نامہ وغیره) ۳۶۱ ب تا ۳۰۸ ب ، ملمعتات تضمین کلام معجز نظام حضرت امیر المؤمنین صلوات الله علیہ ۳۰۹ ب تا ۳۱۰ ا ، خاتمه در مواعظ و نصائح کلام معجز نظام حضرت علی صلوات الله وسلامه علیہ ۳۱۱ ب تا ۳۱۸ ب جلد دوم : غزلیات ۶ ب تا ۲۲۸ ا .

باڈلیان (Bodleian) لانبریری آکسفورڈ یونیورسٹی کا نسخہ (۳) :
اس نسخہ کے مندرجات حسب ذیل ہیں :
فارسی حصہ : خطبہ کلیات ، قصائد ، غزلیات ، رباعیات ، مثنویات ، ایک طویل مثنوی صوفیانہ اور معلمانہ مقصد کے لیے ، رقعات .
اردو حصہ : غزلیات ، مثنویات .

جامعہ ملیہ دہلی کا نسخہ :
اس کا ذکر سید ادیب نے کیا ہے مگر اب یہ غائب ہو چکا ہے .
یہ ایک مکمل نسخہ تھا (۴) .

ڈاکٹر وحید قریشی لاہور کا نسخہ : ب ۷۵۱ ت لعیہ
یہ صرف دیوان فارسی کا نسخہ ہے (۵)
فائز کی دیگر تصانیف :

سید ادیب نے فائز کی مندرجہ ذیل تصنیف کا بھی نام دیا ہے (۱)

- ۱ - اعتقاد الصدر ۲ - طریق الصدر ۳ - صراط الصدر ۴ - معارف الصدر ۵ - تبصرة الناظرين ۶ - احزان الصدر ۷ - احیاء القلوب ۸ - رسالہ مناظرات ۹ - ائیس الوزرا ۱۰ - فوائد الصحّت ۱۱ - منتخب الصدر ۱۲ - ارشاد الوزرا ۱۳ - نجم الصدر ۱۴ - تحریر الصدر ۱۵ - رسالہ مالیخولیا ۱۶ - هدایۃ الصدر ۱۷ - زینۃ البساتین ۱۸ - تحفة الصدر

.. تحفہ الصدر .. مطبوعہ صورت میں موجود ہے۔ اس کی سر ورق پر کتاب کا نام .. فرسنامہ .. اور مصنف کا نام .. زبردست خان .. لکھا گیا ہے۔ یہ دونوں باتیں غلط ہیں (۸) -

منتخب کلام :

فائز کی متذکرہ الصدر کلیات کی عنایین پر ایک نظر ڈالنے سے ہی معلوم ہو جاتا ہے کہ اس نے روایتی بزمی متنویات کی علاوہ بعض تاریخی نوعیت کی منظومات بھی کھڑے ہیں۔ ہم نے فائز کا کلام منتخب کرنے ہونے ایسی نظموں کو ترجیح دی ہے۔ یہ نظمیں تاریخی آثار سے متعلق ہیں جن کی ساتھ فائز کا گھرہ تعلق تھا۔

فائز کی والد پنجاب کی صوبہ دار تھے اور لاہور میں رہتے تھے۔ لاہور میں ہی ان کا انتقال ہوا۔ فائز بھی کچھ عرصہ لاہور میں مقیم رہے۔ یہاں ان کی کئی حویلیاں اور باغات تھے۔ لہذا بعض نظمیں لاہور شہر اور یہاں کی آثار کی بارے میں ہیں۔

تعريف شهر لاہور

تعريف لاہور پشنو سخن

ندارد نظیرش جہان کہن

چو اونیست شهری بهندوستان
 بود در لطافت چو باع چنان
 آب مازمینش بسان ارم با صفا
 غبارش همه بهتر از تو تبا
 چنان شهر در جمله عالم کجاست
 مراورا ارم گربگوئی رواست
 زبلدان دیگر فزون در حسب
 بگلزار جنت رساند نسب
 مسافر در آنجا بجمعیت است
 که آب و هوایش بکیفیت است
 فرح میفزاید بدل هر زمان
 طرب لازم جمله پیر و جوان
 بهارش تو گوئی که دارد دوام
 گل و لاله در بوستانها مدام
 زدل آب او میزداید الم
 هوایش بسان هوای ارم
 بود آب چاهش همه خوشگوار
 بساتین پر از میوه آبدار
 گوار است آبش چو آب بقا
 کند میوه ها زود نشو و نما
 غذا زود از وی گوارا شود
 وزان اشتباهم دو بالا شود
 ز آبادی او چسازم بیان
 بهر گوشه اش صد خورنق عیان

بهر گوشه هنگامه طرفه
 نمایان مهی هر سواز غرفه
 زخوبی ندارد بعالم نظیر
 که هر خانه اوست به از سدیر
 زیاغات آن آیدم این پسند
 بود نخل هر یک چو طوبی بلند
 پر از میوه دائم چو باع جنان
 بهارش بود روز و شب گلفشان
 به از شهر چین است بازار او
 بنازم به بنا و معمار او
 دکاکین پر است از نفایس تمام
 برو مالک آن گرفته مقام
 بزیب و (به) زینت ندارد فرین
 ازان گشته این حال روی زمین
 چو من گر تو هر گوشه گردیده ای
 یقین حسن بازاریان دیده ای
 بیازار بنگر کران تاکران
 ملاحظت سرستان نازک میان
 نگه های هر یک چو غلمنان بناز
 همه پنهانه یند دامن دراز
 نکو آشنایان بیگانه خو
 جفا پیشه چون تیغ هندی دورو
 صباحت دریشان هویدا بود

ملاحت زرخسarde بیدا بود

(رشاهه) است (میتواند) از (جهان) ملحت (لهیشدا) لجه (جهان) (رشاهه) است (میتواند)

چه بیگانگان ستم آشنا
 که هر سوازیشانست خلقی فنا
 سخن قاصر از وصف رخسارشان
 دلم بلبل باع و گلزار شان
 نباشد چنین شهر دیگر نکو
 وگر دیده (ای ای) برادر بگو
 بشو فائز اکنون بدھلی روان
 رفیق تو لطف خدای جهان^(۹)
 تعریف مسجد جامع لاهور
 بیا وصف مسجد زمن گوش کن
 سخنهای دیگر فراموش کن
 چه مسجد یکی آسمان کرم
 بگیتی بود قبله گاه ام
 بود گبدهش آسمان برین
 سپهربیست گوئی بروی زمین
 بود یضه چرخ عالیجناب
 شده صفرة البيض او آفتاد
 بگیتی کس اورانه همسر بود
 ازین گرده چرخ اخضر بود
 زگردون بود قبه هایش کلان
 گذشته سر او زنه آسمان
 بلندی او را نباشد حساب
 بود کلشیش * از قبة آفتاد

* کلس بفتحین درهندی قبه را گویند که برگبید عماری و بروج و مساجد و کنکره های و عمارات
نصب کند (غیاث) شاعر اینجا اشتباهآ به سکون لام آورده است (دانش)

نعایم چسان رفعتش را بیان
 گذشته سرش از حد فرقدان
 کشیده است سرتا حصار فلک
 نموده است برگنبدش جا ملک
 چو آئینه جم مصفا بود
 سرا پاش باب تماشا بود
 بود قاصر از وصف شائش سخن
 نو است این بنا در جهان کهن
 زبس عمر ها کرده بناش کار
 زمین صرف آن شد چو مشت غبار
 به بنای پرزوی انسان بود
 مگر کار دیو سلیمان بود
 ستونش نشان داده از بیستون
 به بنash فرhad شد رهمنون
 درو سربسر جبه گردیده فرش
 در او را بدی است تاساق عرش
 زمین وسعتی کاش پیدا کند
 که بروی سپهر چنین جا کند
 سپهر است دوپیش او سایه ای
 بمثیز زهر عنصرش پایه ای
 بود منبر از شاخ طوبی تمام
 امام است برجیس در وی مدام
 گذشته منارش زچرخ برین
 همین است معراج روی زمین

فلک را باوهست روی نیاز
 کند سجده آنجا بوقت نماز
 بود آبش از چشمه سلسیل
 همیشه وضو زان کند جبرئیل
 ستونهای موزون چو قد بتان
 چو برگتبدش کلس * گشته علم
 فلک زان بدزدید زینسان شکم
 برابر درونش صغیر و کبیر
 مساوی در آنجا غنی با فقیر
 درونش بود مجمع خاص و عام
 بود کعبه و قبله بهر انام
 چو بیت المقدس بود در صفا
 بود اینچنین خانه بیت خدا
 ازو در جهان تازه رسم نوی
 بنایش چو بنیاد ایمان قوی
 بود خشت پاکش ملایک سرشت
 چنین گنبدی را ندیده بهشت
 چو قصر فلک محکم و پایدار
 زسد سکندر بسی استوار
 بگیتی ز رفعت برآورده نام
 رشید است فرزند بیت الحرام

* چنانکه در حاشیه سابق گذشت این کلمه هندی و به فتحیین است اما شاعر آن را به سکون لام

آورده است (داش)

بسان حرم محترم در جهان

بخارا کش چنین اسوده گردن کشان

چنین قبله گاهی ندیده است کس

همین ثانی کعبه بوده است و بس

بود منبرش همچو کرسی عرش

بخارا سر سروران است فرش

زیس قدر او کرده ایزد جلیل

به پر خاکرو بی کند جبرئیل

و بهر صبح و شام از وفور نیاز

ملایک گذارند ببروی نماز

مساویست شاه و گدا بر درش

فلک پست از پایه منبرش

جبین را نهادن بخارا رواست

که این خانه، بیت خداوند ماست

بشعش نبوده است حاجت ازان

میکند که فندیل او گشته سیارگان

زوصفش سخن میکند کوتاهی

نمایان ازو شان بیت الله

مکن فائز اکنون سخن را دراز

وضو کن رسیده است وقت نماز (۱۰)

بر اشان بیرون میبردند

درینه راوی کج قریب ایک خوبصورت باع واقع تها

جس کج آثار ابھی تک کامران کی باره دری اور با غیجه کی صورت

میں پائی جاتی هیں (۱۱)، اس باع کی تعریف میں فائز کی مندرجہ

ذیل نظم موجود بـ -

تعریف پاغ نهراپ لا هور
 بیا بشنو صفات پاغ نهراپ
 که آن گلشن چو جنت هست کم باب
 درین گلشن زجنت غنچه افزون
 درختانش رسیده تابگردون
 نکو قصری چو او نبود در آفاق
 ازان گردیده در پنجاب او طاق
 نمیدانم که بنای پر ادراک
 چسان فرقش رسانیده بافلات
 فلک ساگشته است آن قصر نیکولت
 زمین را سر بلندی حاصل از او
 سپهر از ارتفاعش گشته دلخون
 در او متصل با طاق گردون
 زیامش تابگردون یک کمنداست
 میان خاکساران سر بلند است
 چنان شد متصل با چرخ وارون
 که سیلی میزند بر روی گردون
 چو چشم آهوی چین تابدانش
 بزرگیها بود در خاندانش
 بوصف او نه جای چون و چند است
 خیال میست و طاق او بلند است
 هو یدا از سراپایش جمال است

زناشی او شد عقل از کار
 زبس نفاس ماهر کرده پرواز
 منقش طاق او چون سینه باز
 بگیتی نیست چون اونقش ثانی
 مگر نقاش او بوده است مانی
 بدیدارش همه در جستجو بند
 دوسویش تابدان چون چشم بیمار
 نماید طاق او چون ابروئی یار
 بریزادی بنقش آورده هر سو
 نماید در نظر نهرش چو راوی
 نشد طول زمل با او مساوی
 ازین نهر آبروها یافته شهر
 ندیده هیچ کس رودی چو این نهر
 صفائی آب او چون آب حیوان
 گلستان پرتو افگن گشته درآن
 ازو دارد لطافت قصر و گلشن
 بسان دیده آئینه روشن
 چراغان چون شود آنجا هویدا
 زنهر او شود لطفش دو بالا
 روان فواره چون تیر هوائی
 برد تا مه خبر از پیش ماهی

دلیل نظم حدیث آب پاشیش چه سازم
 درازی زبانش را بنام
 زنمایی ندارد هیچ او باک
 خبرهای زمین گوید بافلای
 چمن هایش زفیض نهر پرنم
 درختانش سراسر سبز و خرم
 چو هفت اقلیم باشد یک خیابان
 چنارش سرکشیده تا بکیو ان
 چو طبعم سرو بستانش بلند است
 تواضع از سر افزایان پسند است
 بهرشاخی نشسته فوج ببل
 بسان روضه رضوان پراز گل
 ستاده همچو خوبان نکو رو
 قبای سبز دربر کرده یک جا
 بسان بندگان افتاده بریا
 سراپا راست سرو او چوتیراست
 عصای پیری گردون پیراست
 بگردون گرچه سرشاهان رسیده
 بهر سو چون غلامان صفت کشیده
 چنارش سائیان از برگ بافید
 نیفتند درخیابان نور خورشید
 سر افزای چمن سرو و چنار است
 سه برکه در چمنها خاکسار است

لطفات در خیابانش عیان است
زمین درسايده گلها نهان است
خیابانش پر از خط همچو مسطر
برای خویش اینست محضر
همیشه بلبلش گوید بفریاد
که این با غست یاران عشرت آباد
زگل رنگین چو طبع من چمن شد
برای سبزه و گلها وطن شد
خیابانش چو رخسار بنان است
گل مخلع همیشه فرش آن است
چنار از بهر آن سر را کشیده
که بالاتر ز خود چیزی ندیده
بمعراج بلندی رفته سروش
ثنا خوانش بود دائم تذروش
تمامی سر بلندان زمانه
نشسته بر در آن آستانه
زبس آن طاق خوش طرح است و موزون
شده دیوانه او بید مجنو ن
بود از چرخ اطلس سانبانش
طناب از رسماں که کشانش
ندیده چشم گردون همچو باغی
زگلها هر طرف روشن چراغی
زفیض نامیه در این گلستان
مساوی بوته گل بادرختان

زچنبه صحن بستان گشته خوشبو
 چو طوبی شاخ او رفته بهر سو
 رصحنش گل بعرگان میتوان رفت
 مر او را روضه رضوان توان گفت
 بهارش دور دائم از خزانست
 گلستانش همیشه گلفشانست
 زنرگس هر طرف یابی ذخیره
 زنافرمان نظرها گشته خیره
 گل سنبل چو زلف دلبرانست
 بهر سو یاسمن زاری عیانست
 درین گلشن کجا جای عیوس است
 شگفته هر طرف تاج خروس است
 چو خوبان پیش رو نرگس ستاده
 زبان سلوسن بمدح آن کشاده
 زشادایی همه گلهای او ترا
 بود صد برگ آن چون قبة زر
 وفور اشرفی این جاعیان است
 چنارش درکمر دروی نهانست
 چه زیبائی است بارعنای این باغ
 که نیلوفر بدربیا میشود داغ
 بنفسه تر دماغ این بهار است
 بیوستها کنار از کوکنار است
 زجوش ارغوان آتش بلند است
 برایش برف زنبق * سودمند است

* گل است خوشبو و گویند معرب چنبه است که گلیست نیز بو و بادامی رنگ (غبات)

چراغ غنچه گلنار گلشن

فروزانست گردآن نشیمن
همه گلها درین بستان عیانست
مگر این گلشن و باع جنانست
بیا فائز درین گلشن قدم نه
به بلبل خلعتی از برگ گل ده^(۱۲) از نست

فائز کی ایک نظم ابراهیم آباد کر ایک باع کی تعریف میں ہے
ابراهیم آباد، نواب مردان خان نے اپنے بیٹھ کر نام پر بسایا تھا اور
یہاں رشک شالamar ایک بڑا اور پُر فضا باع بنوایا تھا^(۱۳) ابراهیم
آباد کو آج کل سو هدرہ کہتی ہیں۔ یہ ضلع گوجرانوالہ میں واقع
ہے۔

تعریف باع ابراهیم آباد

درین گلشن کہ مانند بہشت است
هو همواره چون اردی بہشت است
درش چون جب خوبان کشاده
صفایش از گل بستان زیاده
خزان را نیست رہ دراین گلستان
کہ سرسبز است همچون باع رضوان
حنائی گشته دست غنچه چینش
عجب خاصیتی دارد زمینش
بهر غنچه خندان چون بتانست
بلند آوازه ذکر بلبانست

صدای عندلیبیش نشه خیزاست
 گلش بسیار در مردم عزیز است
 بود در موسم گل جوش شادی
 کند در هر طرف بلبل منادی
 گرفته سر بسر روی زمین را
 کسی کم دیده باع این چنین را
 صفا دارد بسان روضه حور
 خورنق پیش او بسیار بی نور
 بود از حوض آئینه کنارش
 چنار و سرو او از سر بلندان
 دمیده سبزه اش چون خط خوبان
 مگر ریحان با غش خط یاراست
 که دل از دیدن او بیقرار است
 گلشن همچون شقایق گشته احمر
 چو به رخساره را زنگ طلا کرد
 امارش خنده دندان نما کرد
 گلش هم رتبه رخسار خو بان
 دهان غنجه چون شکرلیان است
 لیش گونی چنان رنگین زبان است
 گهرباشی کند فواره دائم
 مزاج مستقیم اوست قایم

* که این اشعار را گفته اند و باید بگفت بیرون و پادشاه رنگ (شاد)

بود آبش چو کوثر در نظافت
 تو زآب زندگی به در شرافت
 نسیممش خرمی در دل فزاید
 بروی برگ گل مالیده آید
 چو دیوارش حوادث برکنار است
 هر چون این بیان شفقت بهر جانب که می بینی بهار است
 نشاط افزاست این باغ پرازگل
 دهد دل را فرح چون ساغر مُل *

چو رضوان باید آنجا با غبانی

که فائز گشته این گلشن جنانی (۱۳)

★ ★ *

تعریف عمارت باغ پشاور
 شنو وصف این قصر عالی نشان
 که چون او ندیده است چشم جهان

بر روی زمین عرش استاده

بهشتی ز تفریح آماده

زهی منزل عیش و بیت نشاط

که هر لحظه بخشد بدل انبساط

زهی محفل عشرت و خرمی

زهی موضع راحت و بیغمی

همایون بنانی است محکم اساس

که فرقش نموده بگردون مساس

* شراب (سرخ) (برهان).

نگه گردد از دیدنش کامیاب

مصفا سراپاست چون ماهتاب

نرفته است بر کنگرش فاخته

بگردون ز رفعت سرافراخته

بنای رفیع است و شوکت پناه

بسقش نبرده است اندیشه راه

مصفا چنان گشته دیوار آن

که تصویر مردم نماید دران

نه بینی که معمار صاحب مدار

گج صبح برده است دروی بکار

* * *
بگردون رسیده ز رفعت سرش

بود برتر از طاق کسری درش

بنای بگیتی نباشد چنین

بهشتی سست گویی بروی زمین

چوالوند کوه است او را نمود

بلندیش چون همت اهل جود

شده محظوظ او دیده ماه و مهر

بود سقف او در نظر چون سپهر

شده متصل عرش و افلک را

بلندی ازو عالم خاک را

مگر رزم دارد بنه آسمان

که طافش کشیده است زینسان کمان

نباشد سرافراز چون این بنا

که سقش، بگیتی بود عرش سا

زیس خرمی کرده دروی ظهور
 توان گفت او را سرای سرور
 درون و برونش همه پر خلا
 چو رخساره مهوشان باصفا
 اساسی رفیع است همچون سپهر
 نماید در آثینه اش ماه و مهر
 مسرت فزاست مانند مُل
 برنگ و صفا باج برده ز کُل
 ازان تابداش بود پر زنور
 که هر روزن آن بود چشم حور
 بگنجد در ایوان او جُمله شهر
 فلك رتبه چون اونباشد بدھر
 منقش سراپا بستان تذرو
 بموزونی آن ستون نیست سرو
 سخنهای نقاشی او شنو
 پر از خط و جدول چو تقویم نو
 لب طاق او سرخ چون دلبران
 شفق همچو شنجرف شد صرف آن
 زنقاشی او شود دیده مست
 مگر لا جوردش ز افلک هست
 ندانم چه صنعت دران کرده اند
 طلاش زخورشید آورده اند
 چه نقاش آن بود با اهتمام
 زمه نقره آن گرفته تمام

زقوس قزح بردہ زنگار آن
 چنین رنگ کم دیده شد در جهان
 زنقش است چو گلستان آشکار
 هویدا زدیوار او صد بهار
 زگلهای رنگین بود آن مکان
 منقش چو طاؤس هندوستان
 دل از دیدنش می شود بیقرار
 سراپا صفا همچو رخسار یار
 یقین دان که بنای فطرت شعار
 دروبرده آهک زکوب بکار
 لطافت زفرش سراسر عیان
 مگر یافته خلعت از دلبران
 همه پردهایش بری از عیوب
 ز زربفت و از محمل کار چوب
 زدر بردہ و چغ بود چون بتان
 عروسی مزین زصد زیب و شان
 ازان سایانهای آراسته
 نماید چو خوبان پیراسته
 زمزوزونی او چه سازم بیان
 تناسب درو سربسر چون بتان
 سراپاست این خانه با آب و تاب
 بود حوضش از قطعه آفتاب
 همه حوض هایش بشکل ایاغ
 ازو نشئه چون می بیابد دماغ

سفیدآب صبح است بروی طلا

ازان میبرد زنگ از سینه ها

لطافت سرشت است بستان او

طراوت بود در خیابان *

دران محفل بالطافت تذروان

کند خاکرویی بخاروب سرو

زمینش پر از فیض همچون کرم

پر از میوه و گل چو باع ارم

گلستان او هست همچون جنان

شگوفه درو وا چو چشم بتان

چمنهاش همواره پر نم بود

هوایش چو نوروز خرم بود

سخن فاصر از وصف بستان او

مسرت فراگشته ایوان او

بدلها بود میل گل چیدنش

شود خرمی حاصل از دیدنش

بهارش همیشه بود بی خزان

فرح لازم او چو باع جنان

خدایا همیشه بود با نساط

بدلها دهد راحت و انساط

بماند درین باع فائز مدام

بحق محمد علیه السلام (۱۵)

* راهی که درمیان صحن چمنها باشد (بهار عجم)

غزلیات

دل من جای غمهاي تو باشد
سرم بر شور سوداي تو باشد
چمن شد سينه از گلهاي داغت
مگر باب تماشاي تو باشد
اگرچه نرگس آمد زيب گلشن
اسير چشم شهلاي تو باشد
زجان و دل گذشتن نیست آسان
كه اينها کار شيداي تو باشد
هميشه نالهاي زار فائز

زدست انداز غمهاي تو باشد (۱۶)

به پيش روی خود آئينه دارد
نمیدانم چها درسینه دارد
صف آراغشته از مژگان خونریز
بما چشم سیاهش کينه دارد
ز اهل زرق و سالوس است بی شک
هر آنکس خرقه پشمینه دارد
میان عاشقان کن سرفرازش

چو من هر کس حق دیرینه دارد

هر آنکس دید دیوان مرا گفت

كه فائز از گهر گجینه دارد (۱۷)

در سخن‌هایم اندکی بنگر
 کس نگفته است شعر ازین بهتر
 علم و عقل و شعور خود دارم
 بخت و اقبال بایدم باور
 دیده از دیدنش شود حیران *

اینچنین حسن نیست در کشور
 اندکی روی خود در آئینه بین
 گر ترانیست حرف من باور
 منکر حسن روی آن صنم است

همچو زاهد ندیده ام کافر
 همه راشوق هزل و هرزه بود

میل فائز بود علم و هنر (۱۸) ***

رباعیات

یارب تو مرا پغیر خود وامگذار

از فضل و کرم کار من خسته برآر
 مگذار که سرگشته و حیران گردم

در دایره زمانه همچون پرکار (۱۹) ***

در فقر نه خرقه پوش میباید بود

در هر نفسی بهوش میباید بود
 هر جا که سخن رود ز توحید و شا

چون دایره جمله گوش میباید بود (۲۰) ***

فائز بزم شور هوای دیگریست

بر خویشن از بیخودیم کی نظریست

در دایره زمانه همچون پرکار

گردیدن من بین بدست دیگریست (۲۱)

★ ★ ★

هم صحبت مرد بدنمیباید شد

محشور آبدیو و ددمیباید شد

ارباب کمال هرچه گویند بکن

ما میل اجواب را نمیباید شد (۲۲)

★ ★ ★

عصریست که کس نمیشود یار کسی

در کار خود اند جمله مشغول مدام

کس را خبری نباشد از کار کسی (۲۳)

★ ★ ★

اسرار جهان نهفته در سینه ما

گوهر بجهان متع گنجینه ما

در سینه ما کدورتی اصلاً نیست

چون جام جهان نماست آئینه ما (۲۴)

★ ★ ★

چون هر کس حق دیرینه دارد


که قدر از اینها نمیگذرد

که قدر از اینها نمیگذرد (۲۵)

★ ★ ★

حوالہ جات

- ۱ - مسعود حسن رضوی ادیب : فائز دھلوی اور دیوان فائز ، انجمن ترقی اردو ہند ، علی گزہ .
۲۲ نامہ ، ص ۱۸ ، ۱۹۷۵ء
- ۲ - قاضی عبدالودود : دیوان فائز - عیارستان ، لیبل لنھو برس بشنہ ، ۱۹۵۴ء ، ص ۱ بحوالہ تاریخ محمدی
- ۳ - سید عارف نواہی : فہرست نسخہ های خطی فارسی موزہ ملی پاکستان ، کراچی ، مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان اسلام آباد ، ۱۹۸۳ء ، ص ۵۱۶ - ۵۱۸
- Ed. Sachau & Herman Ethe , Catalogue of the Persian , Turkish, Hindustani , And Pushtu Manuscripts in the Bodleian Library, Pt. I (Oxford : Clarendon Press, 1889) , Cols. 716 — 717.
- ۴ - مسعود حسن رضوی ادیب : محولہ بالا ، ص ۹۹
- ۵ - پنجاب یونیورسٹی لاہور : تاریخ ادبیات مسلمانان پاکستان و ہند ، فارسی ادب (سوم) ص ۱۳ ، مطبوعہ ۱۹۴۲ء
- ۶ - مسعود حسن ادیب : محولہ بالا : ص ۹۶
- ۷ - فائز دھلوی : کلیات فائز ، مخطوطہ جامعہ پنجاب ، ۲۶۲ ب - ۲۶۳ ب .
- ۸ - ایضاً ، ۲۳۹ ب - ۲۵۰ الف
- ۹ - منشی محمد دین فوق اور محمد عبدالله فریشی : مقالہ « مائز لاہور ، پاگات و مزارات » مشمولہ نقش لاہور نمبر ۱۹۶۲ء ، ص ۲۱۸ - ۲۲۰ میں بارہ دری کامران کی تفصیل ملتی ہے .
- ۱۰ - کلیات فائز قلمی نسخہ مخزونہ جامعہ پنجاب لاہور ، ص ۲۴۴ الف - ۲۴۸ ب
- ۱۱ - سید ادیب : محولہ بالا ص ۲۱
- ۱۲ - کلیات فائز نسخہ جامعہ پنجاب ، ۲۸۰ ب - ۲۸۱ الف
- ۱۳ - ایضاً ، ۲۵۶ ب - ۲۵۹ الف
- ۱۴ - ایضاً ۹۰ الف
- ۱۵ - ایضاً ، ۱۱۶ ب
- ۱۶ - ایضاً ، ۱۲۴ ب
- ۱۷ - ایضاً ، ۱۲۸ ب
- ۱۸ - ایضاً ، ۱۲۹ ب
- ۱۹ - ایضاً ، ۱۲۹ الف
- ۲۰ - ایضاً ، ۱۲۹ الف
- ۲۱ - ایضاً ، ۱۲۹ الف
- ۲۲ - ایضاً ، ۱۳۱ الف
- ۲۳ - ایضاً ، ۱۳۲ الف
- ۲۴ - ایضاً ، ۱۳۳ الف



بِنَمْ حَمْ دَاتْ پَكْ خَدَا وَ حَدَدَ لَاشَرِيكْ وَ پَهْمَتَا
 وَاهْبَ الْفَيْضَ جَلْ سَجَانَهْ مَسْعُمَ الْخَلْقَ خَالِقَ الْاَشْيَا
 بَتْ مَخْنَى زَدَاتْ اوْ تَزْرَى
 زَدَارَسْتْ وَ قَوْى عَلِيْمَ وَ حَكِيمَ
 بَتْ بَرَهَانَ دَاتْ اوْ يَسْتَى
 پَلْ بَرَشَسْ نَيْرَدَ اَصَدَهْ
 اَزْتَعَدَهْ بَوْ دَجَاهْشَنَ دَورَ
 اَبْحِيطَاسْتَ بَرَسَهْ عَالَمَ عَلَمَ اوْ اَسْجَلَهْ شَنَ اَنْصَافَا
 سَمَهْ جَادَاتْ اوْ بَوْ دَمَوْجَوْ بَسْتَهِيكْ بَهْجَهْ بَعْنَهْ دَرَخَدَهْ بَهْنَهْ

وارث سرہندی *

فارسی زبان اور متعرّبین

ایران پر عرب غلبہ سے جو اثرات پیدا ہوئے وہ کسی ایک شعبہ حیات تک محدود نہیں رہے ، بلکہ زندگی کا کوئی شعبہ اور گوشہ ایسا نہیں جو ان سے متاثر نہ ہوا ہو . مذہب ، ثقافت ، تمدن ، معاشرت ، فن تعمیر ، زبان اور تحریر و کتابت کے سلسلہ میں یہ اثرات نمایاں ہیں . یہ اثرات دوررس نتائج کے حامل تھے . یہ نتائج بیش تر صورتوں میں جہاں خوشگوار اور خوش آئند ثابت ہوئے وہاں بعض صورتوں میں اگر ان کو ناگوار کہئے میں تامل ہو تو کم از کم خوشگوار قرار دینے میں بھی تامل ہو سکتا ہے اور ان کی افادیت پر کلام کیا جا سکتا ہے .

عربون کے ذریعہ ایران میں اسلام داخل ہوا اور اپنی حقانیت اور سادگی کے سبب تمام ایران پر چھا گیا . چنانچہ ایران کی آبادی کا بیش تر حصہ مشرف بہ اسلام ہوا ، جس سے اسلامی اقدار کو ایران میں بہت فروغ حاصل ہوا . اہل ایران نے اسلام کو اپنا کر اسلام کی ترویج و اشاعت کر لئے جو مساعیِ جمیلہ کیں اور علمی و تہذیبی

* ولادت : ۲۳ ستمبر ۱۹۳۲ء۔ لفظ اور لسانیات کے ماہر ہیں . کنجروز ، تحصیل پرورد ضلع سبالکوٹ میں رہائش ہے .

آثار : ۱ - علمی اردو لفظ جامع . ۲ - اردو کتب لفظ کالسانی اور تحقیقی جائزہ . ۳ -

قاموس مترادفات اردو .

شعبوں میں جو نمایاں خدمات انجام دیں وہ ناقابل فراموش اور تاریخ
اسلام کا روشن باب ہیں * اس میں دو رائیں نہیں ہو سکتیں کہ
مسلم علمائے عجم نے علمی میدان میں جو کارھائے نمایاں انجام دیئے
ہیں وہ عرب اہل علم سے کم تر نہیں ہیں ۔

چونکہ اسلام کی بلکہ قرآن حکیم کی زبان عربی ہے اس لئے
اسلام قبول کرنے کے بعد عربی زبان سے دلچسپی اور وابستگی فطری
بات تھی اس لئے اہل ایران نے عربی زبان کو کشادگی قلب کے ساتھ
اپنا پا اور عربی زبان میں ایسی مہارت حاصل کہ کہ بعض صورتوں
میں عرب اہل زبان بھی ان پر رشک کریں تو بجا ہے ۔ چنانچہ عربی
زبان کی ترویج و ترقی میں بھی ایرانی اہل علم کی خدمات بہت
نمایاں اور اہم ہیں ۔ عربی کی پہلی باضابطہ اور جامع لغت کا مؤلف
مجد الدین فیروز آبادی بھی ایرانی ہی تھا ۔ یہ لغت اس کی عربی
میں مہارت کی زندہ و تابندہ ثبوت ہے ۔ آج بھی اس لغت کو سند
سمجھا جاتا ہے اور عرب اہل زبان بھی اس پر اعتماد کرتے ہیں ۔

یہ تو نہیں عربی زبان میں اہل ایران کی مہارت کی بات ، جس
کا موضوع زیر بحث سے برآ راست تعلق نہیں ہے ، البتہ پس منظر کر
طور پر ان باتوں کا ذکر ضروری تھا تاکہ اس مستملہ کے مالہ ، و
وماعلیہ کو سمجھنے میں آسانی ہو ۔ اصل موضوع فارسی زبان پر
عربی کے اثرات اور متعرّبین کا طرز عمل ہے ۔ چنانچہ اب اسی طرف
رجوع کرتا ہوں ۔

فارسی زبان پر عربی کے اثرات کے ثبوت میں کسی لمبی

* دانش : اس موضوع پر استاد مرتضی مظہری نے مسوط کتاب بعنوان .. خدمات مقابل ایران و اسلام
” لکھی ہے ۔

چوڑی بحث کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس حقیقت سے ہر فارسی دان بخوبی واقف ہے اور خود فارسی زبان اس کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ فارسی میں عربی الفاظ و تراکیب جس طرح گھل مل اور رچ بس گئی ہیں اور تحریر و تقریر میں جس بے تکلفی سے استعمال ہوتی ہیں اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ فارسی زبان کا جزو لا ینفك بن چکی ہیں۔ اس لئے ان کو فارسی زبان سے خارج کرنے کی کوئی کوشش کامیاب نہیں ہو سکتی۔ اس کا عملی ثبوت ماضی قریب میں اس تحریک کی ناکامی سے مل چکا ہے، جو فارسی زبان سے عربی الفاظ و تراکیب کو خارج کرنے کی غرض سے چلانی گئی تھی۔ شروع شروع میں اس تحریک نے بہت زور باندھا تھا اور متعدد عربی الفاظ کے فارسی متبادلات تراش کر عربی الفاظ کی جگہ رائج کرنے کا ڈول ڈالا گیا تھا، مگر جلد ہی یہ تحریک اپنی موت آپ مر گئی اور آج بھی فارسی زبان میں عربی الفاظ و تراکیب اسی طرح مروج و مستعمل ہیں اور اس تحریک کے مویدین بھی اپنی تحریر و تقریر میں ان کے استعمال پر مجبور ہیں۔ کیونکہ ان کے بغیر بات نہیں بنتی۔

اس تحریک کی ناکامی کا حقيقة سبب یہ تھا کہ اس کا بنیادی تصور ہی غلط اور منفی سوج کا حامل تھا۔ کیونکہ یہ تحریک اصلاً اصلاحی اور مثبت تحریک نہ تھی۔ اس لئے ظاہر ہے کہ کسی منفی عمل سے مثبت نتائج ییدا نہیں ہو سکتے۔ زندہ زبانیں ہمیشہ متھری اور ارتقاء پذیر رہتی ہیں۔ زبانوں میں آپس کا لین دین ایک فدرتی اور ارتقائی عمل ہے کوئی زبان اس داد و ستد کے عمل سے بچ نیاز نہیں رہ سکتی بشرطیکہ وہ زندہ زبان ہو۔ موجودہ فارسی میں فرانسیسی اور دوسری زبانوں کے متعدد الفاظ شامل ہو کر زبان کا

حصہ بن چکر ہیں۔ اگر ان کو گوارا کیا جا سکتا ہے تو عربی الفاظ کو کبون نہیں کیا جا سکتا۔ بلکہ عربی الفاظ کا تو فارسی سر بہت گھبرا رشتہ ہے۔ فارسی زبان تو عربی سر اس حد تک متاثر ہے کہ فارسی میں اس کر بعض اصلی الفاظ کی نسبت ان کی معرب صورتیں زیادہ مستعمل ہیں۔ دور کیوں جائیے، خود لفظ، فارسی، پارسی کا معرب ہے۔ مگر کوئی بھی فارسی کی جگہ، پارسی استعمال نہیں کرتا۔ یہ تو ایک مثال ہے ورنہ فارسی میں سر ایسے الفاظ و اسماء کی متعدد مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں، جن کی معرب صورتیں، ان کی اصلی صورتوں کی بجائی خود فارسی میں بکتر مستعمل ہیں۔

یہ عربی کر مثبت اثرات کا ایک پہلو تھا جس سے فارسی زبان کو فائدہ پہنچا اور اس کر لسانی تحول میں اضافہ ہوا۔ لیکن اس کر بعض منفی اثرات بھی ہیں، جن کی طرف اہل علم اور ماہرین لسانیات حتیٰ کہ فارسی کو عربی الفاظ و تراکیب سے پاک کرنے کی تحریک چلازیں والوں نے بھی نظر انداز کر دیا۔ حالانکہ اگر اس پہلو پر توجہ دی جاتی تو یہ تحریک بڑی حد تک کامیاب ہوتی اور فارسی بھی ان منفی اثرات سے آزاد ہو جاتی۔ مگر وہ لوگ غلط راہ پر چل نکلے۔ فارسی پر عربی کر غیر ضروری اور غیر فطری تسلط اور غلبہ کر حامی لوگوں کو، متعربین کا نام دیتا ہوں، اس لحاظ سے عربی کر مثبت اور فطری اثرات سے فارسی کو محروم کرنے والے لوگوں کو، متعجمین کہا جا سکتا ہے۔ ان دونوں طبقوں کی مساعی سے ایک قسم کا لسانی انتشار اور بے قاعدگی پیدا ہونی ہے۔ اس لئے اعتدال اور سلامتی کی راہ اختیار کرنا ہی مناسب ہے اور حالات کا تقاضا بھی یہی ہے کہ ان دونوں گروہوں کے منفی اور مضر اثرات سے

زبان کو نجات دلائی جائز .

کسی زبان میں دوسری زبانوں کے الفاظ استعمال کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں ، بشرطیکہ وہ دخیل الفاظ زبان میں گھل مل جائز کی صلاحیت رکھتے ہوں اور زبان کے بنیادی ڈھانچے کو نقصان نہ پہنچائیں ، کیونکہ اس طرح زبان میں وسعت پیدا ہوتی ہے اور اظہار و ابلاغ کی راهیں کشادہ ہوتی ہیں . بلکہ بعض صورتوں میں دوسری زبانوں کے الفاظ کا استعمال ناگریز ہو جاتا ہے . لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ غیر زبان کے اثرات کو اس طرح قبول کیا جائز کہ زبان کے اصلی الفاظ کا حلیہ بگز جائز اور زبان کے صوتی نظام میں انتشار پیدا ہو جائز یا زبان کی اپنی شناخت اور اس کا تشخص ہی مجروح ہو جائز . چنانچہ متعرّین نے عربی زبان کو فارسی پر جس انداز میں مسلط کرنے کی کوشش کی ہے وہ اسی نوع کی ہے . اور اس سے فارسی زبان کا اپنا تشخص اور صوتی نظام مجروح ہوا ہے .

فارسی زبان کے لیے عربی رسم الخط اختیار کیا گیا تو یہ حالات کا تقاضا تھا اور اس سے فارسی زبان کی ترقی میں بہت مدد ملی ، کیونکہ فارسی کے قدیم پہلوی رسم الخط کے مقابلہ میں عربی رسم - الخط زیادہ ترقی یافتہ تھا . چنانچہ اس کو اپنا نے سے فارسی زبان کو عربی سے استفادہ کرنے میں بہت آسانی پیدا گئی اور اس طرح یکسان رسم الخط کی بنا پر ایرانیوں کے لئے عربی زبان اور عربوں کے لئے فارسی زبان سیکھنا آسان ہو گیا . اگر بات اسی حد تک رہتی تو کوئی حرج نہ تھا لیکن متعرّین نے عربی پرستی کے جوش میں بعض ان فارسی الفاظ کو بھی عربی کے ان حروف سے املأ کرنے کی طرح ڈالی ، جن کا فارسی کے نظام اصوات سے کوئی تعلق نہ تھا . ہر زبان کا اپنا ایک صوتی نظام ہوتا ہے اور اسی نظام کی نمائندگی اس کا

رسم الخط کرتا ہے۔ حروف دراصل اس زبان کر بولنے والوں کی آوازوں اور لہجہ کر علامت ہوتی ہیں۔

مختلف علاقوں اور خطوں کر رہنے والوں کر لہجہ میں کچھ آوازیں ایسی ہوتی ہیں جو دوسرے علاقوں اور خطوں کر باشندوں کر مماثل ہوتی ہیں۔ اس لئے ایسی آوازوں کو مشترک اصوات کہہ سکتے ہیں۔ چنانچہ مختلف زبانوں میں بعض اصوات مشترک ہیں، اس لئے ان کر بعض حروف ہجا مختلف الاسم ہونے کر باوجود مشترک الصوت ہوتی ہیں۔ لیکن بعض اصوات ایسی ہوتی ہیں جو کسی ایک زبان یا لسانی گروہ سے مخصوص ہوتی ہیں۔ اس لئے ان کی نمائندگی یا ادائیگی کر لئے حروف جو صوتی علامات ہیں وہ بھی مخصوص ہوتی ہیں۔ عربی اور فارسی میں بھی یہ فرق موجود ہے اس لئے جب عربی رسم الخط کو فارسی زبان کر لئے اختیار کیا گیا تو اس رسم الخط میں ان اصوات کی نمائندگی کر لئے جو عربی زبان میں موجود نہیں ہیں بعض حروف کا اضافہ کیا گیا۔ عربی میں پ، چ، ڙ، گ کی آوازیں موجود نہیں ہیں۔ اس لئے ان آوازوں کی نمائندگی کر لئے اس رسم الخط میں ان حروف کا اضافہ کر کر اس کو فارسی کر لئے قابل عمل بنایا گیا۔ اسی طرح جب اردو کر لئے بھی رسم الخط اپنایا گیا تو اس میں ث، ڏ، ڙ، ، اور بعض مخلوط۔ الہما آوازوں مثلاً بھ، پھ، تھ، نھ، وھ، چھ، ڏھ، ڏھ، رھ، ڙھ، کھ، گھ، لھ، مھ، نھ، وھ، کا اضافہ کیا گیا، کیونکہ عربی اور فارسی میں یہ آوازیں موجود نہیں تھیں۔ اسلئے ان کر رسم۔ الخط میں بھی ان آوازوں کی نمائندگی کر لئے حروف کا وجود نہ تھا اس سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ ہر زبان میں کچھ آوازیں مخصوص ہوتی ہیں، جو دوسری زبانوں میں نہیں ہوتیں اور کچھ۔

آوازیں مشترک ہوتی ہیں ، جو دوسری زبانوں میں بھی ہوتی ہیں ۔ اسی طرح بعض اصوات کچھ زبانوں میں مشترک ہوتی ہیں مگر وہی آوازیں کچھ زبانوں میں غیر مشترک ہوتی ہیں ۔ جس طرح عربی میں پ ، ج ، ذ ، ص ، ض ، ط ، ظ ، ع کی آوازیں موجود نہیں ہیں - اسی طرح ث ، ح ، ذ ، ص ، ض ، ط ، ظ ، ع کی آوازیں اصلاً فارسی زبان میں موجود نہیں ہیں ۔ اس لئے فارسی کا کوئی بھی خالص لفظ ان حروف سر املانہیں کیا جا سکتا ۔ کیونکہ جو آواز اور لہجہ کسی زبان میں موجود ہی نہیں ، اس کی نمائندگی اس آواز اور لہجہ سر مخصوص حروف سر کیسے کی جا سکتی ہے اور پھر اس صورت میں تو قباحت اور بڑھ جاتی ہے ۔ جب کسی آواز یا لہجہ کو نمائندہ حروف کو ترک کر کر غیر نمائندہ حروف سر اس کی ادائیگی کی کوشش کی جائے ۔ اور نہ صرف کوشش بلکہ اس پر اصرار کیا جائز ۔ اس لزوم مالایلزم کو کسی طرح بھی پسندیدہ قرار نہیں دیا جا سکتا ۔ مجبوری کی صورت میں تو اس کا جواز پیدا ہو سکتا ہے لیکن اس صورت میں لفظ کی صورت بدل جاتی ہے ۔ مثلاً عربی میں ” پ “ کی آواز نہیں ہے ، اس لئے عربی میں اگر ایسا لفظ استعمال کیا جائز جس میں ” پ “ کی آواز ہو تو اسے ” پ “ سر مشابہ آواز ” ف “ سر بدل کر استعمال کیا جاتا ہے ۔ اسی قاعده کو زیر اثر فارسی ” پیل “ عربی میں جا کر ” فیل “ بن گیا ۔ مگر اس صورت میں ” فیل “ کو خالص فارسی لفظ نہیں بلکہ معرب کہا جائز گا ۔ یہی حال اور بہت سر الفاظ کا ہے ۔

اب یہاں یہ اعتراض وارد ہو سکتا ہے کہ ” فیل “ اور اسی قبیل کے دوسرے الفاظ معرب صورت میں فارسی میں بھی مستعمل ہیں ، تو کیا ان کا فارسی میں استعمال غلط ہوگا ۔ حالانکہ فارسی میں اس

کی اصلی صورت „بیل“ موجود ہے۔ پھر کیوں نہ، بیل“ ہی استعمال کیا جائے۔ اس کا جواب یہی ہے کہ فارسی میں، فیل، کی جگہ،، بیل“ استعمال کیا جائے تو بہتر و انسب ہے، مگر،، فیل“ کا استعمال بھی غلط نہیں ہوگا، کیونکہ فارسی میں یہ لفظ خالص فارسی لفظ کی صورت میں استعمال نہیں ہوگا بلکہ دخیل معرب لفظ کی حیثیت سے استعمال ہوگا۔ جہاں فارسی میں دوسرے دخیل الفاظ استعمال ہو رہے ہیں وہاں معرب الفاظ کرے استعمال میں بھی کوئی قباحت نہیں ہے۔ اس طرح اردو کا ایک لفظ ہے،، جہکڑ“۔ فارسی میں،، جہہ“ اور،، ٹر“ کی آوازیں نہیں ہیں، اس لئے فارسی شراء نے یہ لفظ فارسی،، جکر“ کی صورت میں استعمال کیا ہے، اس لئے نظر ضرورت کرے تحت یہ صورت جائز ہوگی۔ مگر اس صورت میں یہ لفظ خالص اردو لفظ نہیں رہے گا، بلکہ،، مفرس“ کہا جائے گا۔

یہاں ذہن میں یہ شبہ پیدا ہو سکتا ہے کہ فارسی کرے لئے عربی رسم الخط اختیار کرتے وقت اگر اس میں فارسی میں موجود غیر عربی اصوات کی نمائندگی کرے لئے بعض حروف کا اضافہ کیا جاسکتا ہے تو عربی سے مخصوص غیر فارسی اصوات کرے نمائندہ حروف کو فارسی رسم الخط سے خارج کیوں نہیں کیا گیا۔ اس کرے جواب میں کہا جا سکتا ہے کہ ان حروف کو برقرار رکھنا اس لئے ضروری تھا کیونکہ فارسی میں عربی کرے بہت سے الفاظ اپنی اصلی صورت میں استعمال ہوتے ہیں، اس لئے ان کی تحریر کرے لئے ان حروف کا وجود ضروری ہے۔

عربی کرے الفاظ کا اصلی املاء برقرار رکھنے کا یہ فائدہ بھی ہے کہ اس طرح ان کی اصلی صورت قائم رہتی ہے اور ان کی شناخت آسان

ہو جاتی ہے، چونکہ فارسی کا موجودہ رسم الخط عربی سے مستعار ہے، اس لئے ان آوازوں کے نمائندہ حروف کو برقرار رکھنا اور ان کی مدد سے عربی الفاظ کو ان کی صحیح صورت میں تحریر کرنا مشکل نہ تھا، بلکہ اس سے دو چند فائدے تھے۔ اس طرح عربی الفاظ کی اصل تک رسانی آسان ہو جاتی ہے۔ یہی طریق کار عربی رسم الخط کو اردو میں اپنائی وقت روا رکھا گیا اور عربی سے مخصوص حروف کو برقرار رکھا گیا کیونکہ اردو میں بھی عربی کے بہت سے الفاظ یہ تکلفی سے استعمال ہوتے ہیں۔ اس لئے عربی الفاظ کو ان کے صحیح املا کے ساتھ لکھنا آسان ہونے کے ساتھ مذکورہ بالا فوائد کا حامل بھی ہے۔

یہ صورتیں تو وہ ہیں، جن کا جواز بھی ہے اور فائدہ بھی، لیکن کچھ صورتیں ایسی ہیں، جن کا نہ کوئی جواز ہے اور نہ فائدہ اور نہ ان پر نظریہ ضرورت کا اطلاق کیا جا سکتا ہے۔ مثلاً ایسے الفاظ جو مغرب بھی نہیں اور اپنی اصل اور ظاہری صورت کے لحاظ سے بھی خالص فارسی الفاظ ہیں، ان کو عربی سے مخصوص ان حروف سے املا کرنا، جن کا فارسی میں کوئی وجود نہیں ہے، اور ان کی اصلی آواز نمائندہ حروف بھی موجودہ رسم الخط میں موجود ہیں، سراسر خلاف قاعدہ اور یہ جواز ہے۔

جیسا کہ پہلے کہا جا چکا ہے متعدد نے ایسے الفاظ کو عربی سے مخصوص حروف کے ساتھ املا کرنے کی ایسی غلط روشن قائم کی ہے کہ ابھی تک اس کے اثرات فارسی زبان میں پائی جاتی ہیں۔ ضروری ہے کہ اس غلط روشن کی اصلاح کی جائے اور ایسے الفاظ کا صحیح املا اختیار کیا جائے۔ متعجمین کی تحریک کے دوران میں بعض ایسے الفاظ کے املا میں اصلاح ہونی ہے، مگر چونکہ اس

تحریک کا زیادہ زور عربی الفاظ کے اخراج پر صرف ہوا اسلائے کرنے
 کا کام رہ گیا۔ اس تحریک کے دوران میں جو اصلاحات واقعی
 ضروری اور قابل قبول تھیں وہ برقرار رہیں اور جو محض تعصب پر
 مبنی تھیں اور اصلاح کی بجائے نخریب کی حامل تھیں وہ مقبول
 نہیں ہو سکیں۔ قابل قبول اصلاحات کی چند مثالیں یہ ہیں۔
 متعرّین کی مہربانی سے تپیدن مصدر اور اس کے مشتقات ایک مدت
 ط، سر طپیدن، طیان، طپش املا کئے جاتے رہے ہیں۔ حالانکہ
 فارسی میں ط، کی آواز نہیں ہے اور .. تپیدن، خالص فارسی لفظ
 ہے۔ اس لئے اس میں یہ آواز موجود نہیں ہے اور نہ ط، سر اس کا
 املا درست ہے مگر اب یہ اپنی صحیح صورت میں .. ت، سر لکھرے
 جاتے ہیں۔ اسی طرح ایک زمانہ میں طپنچہ اور طمنچہ کا چلن تھا،
 مگر اب اس کی صحیح صورت تپنچہ اور تمنچہ رائج ہے۔
 شاید زیادہ مدت نہیں ہونی جب، "طہران" لکھا جاتا تھا، مگر اب
 .. تہران، املا کیا جاتا ہے۔ تاہم اب بھی فارسی میں اسی الفاظ
 موجود ہیں جو اپنی اصلی صورت سے ہٹ کر متعرّین کی جاری کردہ
 روایت کے زیر اثر غلط طور پر عربی سے مخصوص حروف سے املا
 کئے جاتے ہیں۔ مثلاً صد، صدی، شصت کو لیجنے۔ ان کو صاد
 مہملہ سے لکھنے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ صاد کی آواز کا فارسی
 میں کوئی وجود نہیں ہے اور یہ الفاظ خالصہ فارسی زبان کے الفاظ
 ہیں۔ اس لئے ان کا صحیح املا سد، سدی اور شصت ہے اور ان کو
 اسی طرح لکھنا چاہیئے۔

اگرچہ بعض اہل لغت نے اس حقیقت کو محسوس کیا ہے مثلاً
 فرہنگ عمید میں .. صد، اور .. شصت، کا دوسرا متبادل املا، سد
 .. اور شصت، بھی درج ہے، مگر فارسی کی عام تحریروں میں اب

بھی صاد مہملا سر .. صد .. اور .. شست .. دیکھئے میں آتی ہیں . یہ ضروری ہے کہ ان کی اصلاح کر کر صحیح املا اختیار کیا جائے . کم از کم علمی و ادبی اداروں سر شائع ہونے والی کتابوں اور رسالوں میں تو اس کا التزام ہونا چاہیے - کتب لغت میں البتہ یہ املا درج ہو گا کیونکہ لغت نگار اس پر مجبور ہے کہ زبان میں رائج ہونے والے ہر غلط یا صحیح املا یا صورت کو محفوظ کرے ، مگر اس کا یہ بھی فرض ہے کہ وہ یہ املا درج کرنے کے بعد اس کی صراحت کر دے کہ یہ غلط ہے اور اس کی صحیح صورت کیا ہے . تاکہ لغت سر استفادہ کرنے والے قارئین کی صحیح سمت میں راہ نمائی ہو سکے .

ایسے الفاظ کی مکمل فہرست پیش کرنے کے لئے تو ایک طویل مقالہ بلکہ ایک مبسوط کتاب کی ضرورت ہے تاکہ تمام پہلوؤں پر سیر حاصل بحث ہو سکے ، لیکن ایک رسالہ میں شائع ہونے والے اس مقالہ میں اتنی گنجائش نہیں ہو سکتی - اس لئے میں چند اشارات پر اکتفا کرنا مناسب سمجھوں گا . آخر میں میں فارسی میں .. ذال .. معجمہ کے استعمال کے باب میں توجہ دلانا ضروری سمجھتا ہوں . ذال معجمہ کا مسئلہ فارسی میں خاصا الجھ گیا ہے - حالانکہ دقت نظر سے دیکھا جائز تو اس میں کوئی الجھاؤ نہیں ہے - ذال معجمہ فارسی کے بعض الفاظ ، میں بتواتر مستعمل ہے ، مگر ان ہی سے ملتے جلتے الفاظ میں زائی منقوطہ مستعمل ہے ، حالانکہ حقیقت یہی ہے کہ ذال معجمہ عربی سے مخصوص ہے اور جس آواز کی نمائندگی یہ حرف کرتا ہے فارسی تو کیا آریانی گروہ کی کسی بھی زبان اور اس کے لهجه میں یہ آواز موجود نہیں ہے - ایسی صورت میں خالص فارسی الفاظ کا املا ذال معجمہ سر کرنا کسی طرح بھی درست نہیں ہے .

فارسی مصدر، پذیرفتن، اور اس کر مشتقات، گذاردن، گذاشت، گذارندن، گذرانیدن، گذشت، اور ان کر تمام مشتقات عموماً ذال معجمہ سے لکھی جاتی ہیں۔ فارسی کی کتب لغت میں بھی ان کا املا ذال منقوطہ ہی سے مندرج ہے، حالانکہ اس کا کوئی جواز نہیں ہے۔ ان الفاظ کو زائر منقوطہ سے گزاردن، گزاشت، گزراندن، گزرانیدن، گزشت لکھنا چاہیئے اور اس طرح ان کر تمام مشتقات بھی زائر منقوطہ ہی سے درست ہوں گے۔ یہ الفاظ معرب بھی نہیں ہیں کہ ان کر ذال معجمہ سے املا کا جواز پیدا ہو سکے البتہ، گزاردن، بمعنی بجا آوردن اور اس کر مشتقات زائر منقوطہ ہی سے لکھی جاتی ہیں۔

بعض اصحاب ذال معجمہ سے لکھنے کا جواز یہ پیدا کرتے ہیں کہ اس طرح گزاشت یا گزاردن بمعنی نہادن وغیرہ اور گزاردن بمعنی بجا آوردن میں تمیز ہو سکتی ہے اور اس طرح ان کر معنوی اختلاط سے محفوظ رہا جا سکتا ہے۔ مگر فی الحقیقت یہ کوئی جواز نہیں۔ ہر زبان میں متعدد ہم شکل الفاظ ہوتے ہیں، ان کی مماثلت و مشابہت سے اگرچہ معنوی اشتباه کا امکان ہو سکتا ہے، مگر عبارت کا سیاق و سباق اس اشتباه کو دور کر دیتا ہے اور موقع محل سے صحیح معنی کر کے تعین میں مدد ملتی ہے۔ بعض الفاظ کے مختلف معانی ہوتے ہیں اور ان معنی میں کوئی قریبی تعلق بھی نہیں ہوتا مثلاً، آهنگ، کے معنی عزم و ارادہ بھی ہیں اور آواز و سخن بھی۔ ان دونوں معنوی پہلوؤں میں بظاہر کوئی تعلق بھی نظر نہیں آتا۔ مگر یہ لفظ ان دونوں معنی میں استعمال ہوتا ہے اور عبارت کا سیاق و سباق اور موقع و محل واضح کر دیتا ہے کہ یہ لفظ کہاں کن معنی میں استعمال ہوا ہے۔ اگر اسی فرق کو وجہ جواز بنا کر آواز کے معنی میں

،، آهنگ“، باهائے ،، هوز“، اور ارادہ کرے معنی میں ،، آهنگ“، باحائزے ،، حطی“ لکھا جائز تو اسے کون درست کہیرے گا۔ بعض الفاظ تو اس معنوی اختلاف میں اترے بڑھی ہوتے ہیں کہ متضاد معانی کرے حامل ہوتے ہیں، مگر ان کو بہانہ بنا کر ان کا املا تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ یہی حال ،، آذر“ اور اس کے مرکبات کا ہے، ان کو بھی بالالتزام ذال معجمہ سے لکھا جا رہا ہے، حالانکہ یہ بھی بے جواز ہے۔ اس چلن کو دیکھ کر اور اسے سند جواز دینے کے لئے بعض اصحاب نے فارسی میں ذال معجمہ کا وجود ثابت کرنے کی بھی کوشش کی ہے، مگر اسے سعی رانیگان ہی کہا جائز گا۔ ،، آذر“ کی قدیم، پہلوی اور اوستانی صورتوں سے اس کا ثبوت تلاش کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ ،، آزر“، زائر منقوطہ سے اس لئے درست نہیں ہے کہ اس کی قدیم صورتوں میں زائر منقوطہ کی آواز نہیں پائی جاتی۔ یہ تسلیم، مگر اس کی قدیم صورتوں میں ذال معجمہ کی آواز کا سراغ بھی نہیں ملتا۔ البته ان الفاظ کا قدیم تلفظ ذال مہملہ سے بہت قریب ہے اور یہ قرین قیاس ہے کہ ان کا صحیح تلفظ ذال مہملہ سے ،، آذر“، تھا، جسے عربوں کی تقلید میں متعرّبین کی ذال پسندی نے ،، آذر“، بنا دیا۔

عربوں کی ذال پسندی کا ثبوت دوسرے شواهد سے بھی ملتا ہے مثلاً فارسی لفظ ،، استاد“، ذال مہملہ سے ہے، لیکن جب یہ لفظ عربی میں گیا تو ذال مہملہ ذال معجمہ سے بدل گئی اور یہ ،، استاذ“، ہو گیا۔ حالانکہ عربی میں ذال مہملہ کی آواز موجود ہے، اس لئے اسے اس کو اصلی صورت میں ذال مہملہ سے بھی عربی میں قبول کیا جا سکتا تھا، مگر ایسا نہیں ہوا۔ اس لئے میں یہ محسوس کرنے پر مجبور ہوں کہ عربوں کو ذال کی آواز کچھ زیادہ ہی پسند ہے

ناہم فارسی میں ،، استاذ ،، باذال معجمہ کرے استعمال کا جواز ایک معرّب لفظ کی حیثیت سرے ہو سکتا ہے ، مگر ،، آذر ،، اور اس کرے مرکبات اور ،، گذاردن و گذاشتن ،، اور ان کرے مشتقات کرے ذال منقوطہ سرے لکھنے کا جواز نہیں ہو سکتا ، کیونکہ یہ الفاظ معرّب نہیں ہیں جہاں تک فارسی زبان میں ذال معجمہ کرے وجود کا تعلق ہے تو اس کی کوئی بین شہادت نہیں ملتی - اگر فارسی میں ذال معجمہ کا وجود ہوتا تو فارسی میں ایسے بہت نہیں تو چند الفاظ ضرور ہوتے جو ذال معجمہ سے شروع ہوتے - مگر فارسی میں ایک لفظ بھی ایسا نہیں ہے جس کا پہلا حرف ذال منقوطہ ہو - اس کرے بر عکس عربی میں ذال معجمہ کی آواز موجود ہے ، اس لئے عربی کرے بہت سرے الفاظ ایسے ہیں جو ذال معجمہ سے شروع ہوتے ہیں . یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی زبان میں کوئی آواز موجود بھی ہو مگر اس سے کوئی لفظ شروع نہ ہو . اگر کوئی حرف یا آواز درمیان میں آسکتی ہے تو شروع میں بھی آسکتی ہے .

ہو سکتا ہے کسی کرے ذهن میں اردو کی ،، ڑ ،، کا خیال آئے ، کیونکہ یہ الفاظ کرے درمیان اور آخر میں تو آتی ہے مگر شروع میں نہیں - اور اسی پر قیاس کر کر کہا جا سکتا ہے کہ اس طرح فارسی میں ذال معجمہ آغاز میں نہیں بلکہ درمیان یا آخر میں مستعمل ہے - مگر یہ قیاس معفارقہ ہو گا . اول تو بعض محققین کرے نزدیک یہ بھی درست نہیں ہے کہ ،، ڙ ،، کسی لفظ کرے شروع میں نہیں آسکتی ، اگر روش عام کو ملحوظ رکھتے ہوئے یہ تسلیم بھی کر لیا جائے کہ ،، ڙ ،، کسی لفظ کرے شروع میں نہیں آتی تو بھی اس سے فارسی میں ذال معجمہ کا جواز ثابت نہیں ہو سکتا - ،، ڙ ،، کی آواز بہت ثقیل ہے ، اس لئے اسے ،، رائے نقیلہ ،، کہتے ہیں ، اس لئے عموماً

اسر شروع میں نہیں لاتر مگر ذال معجمہ کر سلسلہ میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ذال معجمہ شروع میں نہیں لا سکتے۔ کیونکہ عربی میں بہت سر الفاظ کر شروع میں ذال معجمہ کا وجود یہ ثابت کرتا ہے کہ اس کر استعمال میں ایسی کوئی رکاوٹ حائل نہیں ہے۔ اگر عربی الفاظ کا آغاز اس حرف سر ہو سکتا ہے تو فارسی الفاظ کا کیوں نہیں ہو سکتا۔ وجہ یہی ہے کہ فارسی میں ذال معجمہ کا کوئی وجود ہی نہیں ہے۔

علاوہ برس فارسی میں جو الفاظ ذال معجمہ سر لکھنے جائز ہیں ان کا تلفظ زائر منقوطہ سر کیا جاتا ہے۔ ایسی صورت میں کیا یہ صورت منطقی نہ ہوگی کہ ان کو زائر منقوطہ ہی سر لکھا جائز۔ یہاں یہ کہا جا سکتا ہے کہ فارسی اور اردو میں وہ عربی الفاظ جن میں کسی نہ کسی مرحلہ میں ذال معجمہ استعمال ہوتی ہے، وہ عموماً زائر منقوطہ سر بولیے جائز ہیں۔ اس لئے کیوں نہ ان کو بھی زائر منقوطہ سر لکھا جائز۔ چنانچہ اس نظریہ کے زیر اثر اردو میں بعض لوگوں نے یہ تحریک چلاتی تھی، جو متعجمین کی تحریک کی طرح ناکام ہو گئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عربی الفاظ کا یہ عامیانہ لمبجہ ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ ان الفاظ کا صحیح املا برقرار رکھنے کی صورت میں ان الفاظ کی اپنی شناخت قائم رہتی ہے اور آسانی سر یہ معلوم ہو سکتا ہے کہ یہ عربی الفاظ ہیں۔ ورنہ خلط مبحث ہو کر طلبہ اور زبان سیکھنے والوں کے لئے بہت سی دشواریاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ مگر فارسی الفاظ کو ذال معجمہ سر لکھنے کی صورت میں ایسا کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ فارسی زبان میں ذال معجمہ کا کوئی وجود نہیں ہے۔ بعض فارسی الفاظ کا ذال معجمہ سر املا محض تکلف بلکہ تعریب ہے، جس کا کوئی جواز نہیں ہے۔ „آذر“

وغیرہ کر سلسلہ میں اگر اصل سے فریب رہنا مقصود ہو تو ان کو دال مہمہ سے لکھا جا سکتا ہے اور اگر عام تلفظ کی رعایت مطلوب ہو تو زائر منقوطہ سے املا کیا جا سکتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ متعرّبین ذال پسندی کر معاملہ میں عربوں سے بھی بڑھ گئے ہیں اور ان کے حد سے تجاوز جوش کا یہ نتیجہ ہے کہ بعض وہ الفاظ بھی ذال معجمہ سے لکھر جائز لگے ہیں، جو خود عربی میں زائر منقوطہ سے ہیں۔ مثلاً حضرت ابراهیم علیہ السلام کے والد کا نام، آزر، زائر منقوطہ سے ہے۔ قرآن حکیم میں زائر نقطہ دار ہی سے مرقوم و ملفوظ ہے، مگر ناروا ذال پسندی کے سبب اسے بھی ذال معجمہ سے، آذر، لکھنے کی روش چل نکلی ہے۔ اردو بھی اس بدعت سے محفوظ نہیں رہی۔ حتیٰ کہ انگریزی لفظ President کو بھی اردو میں ذال معجمہ سے، پریزیڈینٹ، لکھنے کی مثالیں ملتی ہیں جس سے کسی طور پر بھی پسندیدہ بلکہ قابل قبول نہیں سمجھا جا سکتا۔ کم از کم اہل علم و ادب کی تحریروں اور کتب لغت میں ایسے الفاظ کے صحیح املا کا التزام ہونا چاہیے تاکہ عام لوگ بھی ان کی پیروی کرتے ہوئے صحت املا اختیار کر سکیں۔

امید ہے میری یہ معروضات صدا بصرہ ثابت نہیں ہونگی۔

روپسنه ترین *

غلام حسن شہید ملتانی کا فارسی کلام

„مذیقۃ الاولیاء ملتان“، میں تیرہویں صدی ہجری کے نہایت اہم اور سربرآورده صوفیاء میں ایک نام منشی غلام حسن شہید کا ملتا ہے جو حافظ محمد جمال ملتانی اور خواجه خدا بخش کے نامور خلفاء میں شمار ہوتے ہیں۔ ان کی حیثیت بطور ایک صوفی صافی، ایک عاشق صادق اور ایک شاعر کے مسلم اور معتبر ہے۔ آپ کا وجود مسعود سر زمین ملتان کے لئے باعث برکت اور وجہ حفظ و امان تھا۔ جب تک آپ زندہ رہے انگریز ملتان پر قبضہ نہ جما سکرے بلکہ ملتان پر غلبہ حاصل کرنے کے لئے انگریزوں نے حضرت غلام حسین کو شہید کیا۔ آپ ایک ماهر خطاط اور خوشنویس تھے، کئی منظوم اور نثری کتابوں کے مصنف تھے۔ عربی، فارسی، اردو اور ہندی زبانوں پر قدرت حاصل تھی۔ سرائیکی ان کی مادری زبان تھی چنانچہ ان سب زبانوں میں ان کا کلام موجود ہے۔

غلام حسن شہید ۱۲۰۲ھ۔ - ۱۸۸۲ء میں ملتان میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام منشی جان محمد اور دادا کا نام منشی عاقل محمد تھا۔ جن کا تعلق ذات ملنہانس قوم راجیوتوں سے تھا۔ منشی غلام حسن شہید ابھی چھوٹے ہی تھے کہ حافظ محمد جمال آپ کو اپنے ساتھ لے گئے اور آپ نے ان کے مکتب میں تمام علوم متداولہ پر

* رسیج اسکالر شعبہ اردو۔ بهاء الدین ذکریا یونیورسٹی۔ ملتان۔

عبور حاصل کیا - اور حافظ محمد جمال سر ہی بیعت کی . منشی غلام حسن فلسفہ وحدت الوجود کے قائل تھے اور اس سلسلے میں منصور حلاج کے نظریات سے متاثر تھے - اس کا اظہار ان کی صوفیانہ شاعری میں بھی ہوا ہے - آپ ماهر خوشنویس تھے اسی بناء پر لوگ آپ سے تبرکاً کتابیں لکھوائے آئے تھے - آپ ملتان کے سکھ گورنر دیوان ساون مل اور اس کے لذکر دیوان مولراج کے میر منشی تھے

(۲)۔

ولاد علی گیلانی کے مطابق :
.. چونکہ آپ کو خوشنویسی میں یہ طولی حاصل نہا اور دور دراز سے لوگ تبرکاً آپ سے کتابیں لکھوائے کی خاطر آئے تھے
اس لئے منشی صاحب ، آپ کا لقب ہو گیا .. (۳)

جبکہ عمر کمال خان لکھتھے ہیں :

.. آپ نواب مظفر خان کے منشی خانہ میں اپنے والد بزرگوار کے ساتھ ملازم تھے۔ اسی ملازمت اور پیشہ کی وجہ سے منشی کھلاتر تھے .. (۴)

یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ کو یہ خطاب آپ کے علم و فضل کی وجہ سے عطا ہوا ، بہرحال آپ کے باپ ، دادا کے نام کے ساتھ بھی منشی کا لقب شامل تھا ۔

غلام حسن شہید نے نواب مظفر خان شہید کا زمانہ پایا جو کہ اٹھارویں صدی عیسوی کا آخر اور انیسویں صدی عیسوی کا آغاز ہے - یہ زمانہ سیاسی اعتبار سے انتشار اور بدامنی کا دور ہے - اس زمانے میں بر صغیر پر انگریزوں کی حکومت قائم تھی۔ ملتان میں نواب مظفر خان شہید کی حکومت تھی - جبکہ پنجاب میں مہاراجہ رنجیت سنگھ اپنی طاقت کے بل بوئے پر مختلف علاقوں میں قبضے

کی خاطر مسلسل فوجی کاروانیاں کر رہا تھا ۔ چنانچہ ملتان کا زرخیز خطہ بھی اس کی نظر میں تھا ۔ آخر کار ۱۸۱۸ء میں اس نے نواب مظفر خان کی شہادت کرے بعد ملتان پر اپنی عملداری قائم کر کر دیوان ساون مل کو ملتان کا گورنر بنایا ۔ پھر اس کرے بعد اس کے پیشے دیوان مولراج نے بھاں کی گورنری سنپھالی ۔ ملتان پر سکھوں کو انگریزوں نے آسانی سے حکومت نہ کرنے دی اور انہوں نے ملتان فتح کرنے کی کوششیں شروع کر دیں ۔ اس عہد میں منشی غلام حسن زندہ تھے ۔ کہا جاتا ہے کہ ان کی وجہ سے انگریز ملتان پر قبضہ نہ جما سکرے ۔ آخر ایک انگریز سپاہی نے ۲۹ محرم ۱۲۶۵ھ - ۱۸۴۵ء میں آپ کو گولی مار کر شہید کر دیا (۵) ۔ اس وقت آپ کی عمر ۶۳ برس کی تھی ۔ آپ کے بارے میں حافظ محمد جمال اور خواجہ خدا بخش ٹامیوالی کی طرح سکھوں کے خلاف جہاد میں حصہ لینے کا ذکر تو کہیں نہیں ملتا البتہ انگریز سپاہی کی گولی سے شہادت کا ذکر تاریخوں میں موجود ہے ۔ حکم چند لکھتے ہیں :

”باطنی حاکم ملتان کا جو فقیروں سے ہوتا رہا وہ مریدان حضرت سے ہوتا ہے ۔ جب وہ باطنی حاکم وصال کرتا تھا تب دوسرا حاکم فتحیاب ہو سکتا تھا ۔ جب تک منشی غلام حسین صاحب نے وصال نہیں پایا ۔ ملتان فتح نہیں ہوا تھا پھر ایک گورا فوج سرکاری نے منشی غلام حسین کو گولی سے مار دیا اسی روز ملتان فتح ہو گیا“ (۶) ۔

اس سلسلے میں یہ روایت بھی بیان کی جاتی ہے کہ :
 ”ملتان کے ظاہری حکام کا تغیر و تبدل اس وقت عمل میں نہیں آیا کرتا تھا جب تک باطنی حاکم جو حضرت جمال اللہ کے مریدان خاص میں سے ہوتا تھا ، وصال نہ کر جاتا ۔

انگریزی افواج نے جب شہر پر حملہ کیا تو فتحیابی کی کوئی صورت نظر نہ آئی۔ کسی طریقہ سر پتہ چلا�ا گیا کہ شہر فتح نہ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ کسی نے بتایا کہ جب تک حضرت غلام حسن زندہ ہیں تب تک ظاہری حکومت کی تبدیلی کا سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا چنانچہ ایک انگریز نے منشی صاحب کو اپنی بندوق کا نشانہ بنا کر شہید کر دیا ۔ (۱۰)۔

ان کا وہ لباس جس پر گولی لگی تھی حضرت غلام حسن شہید کرے سجادہ نشینوں کرے پاس محفوظ ہے۔ آپ کی وفات کرے بعد آپ کرے بڑے صاحبزادے خواجہ مخدوم غلام یسین خلیفہ ہونے۔

جیسا کہ پہلے لکھا جا چکا ہے کہ غلام حسین شہید بڑے عالم فاضل ، دانشور ، ادیب اور شاعر تھے اور انہیں اردو ، سرائیکی ، فارسی اور عربی زبان پر یکسان مہارت حاصل تھی - شیخ اکرام لکھتے ہیں :

.. عربی اور فارسی پر عالمانہ عبور تھا . آپ نے فارسی ، عربی اور ملٹانی زبانوں میں دو اویں چھوڑے ہیں ۔ (۱۱) ۔

شاعری میں آپ کا مرتبہ بہت بلند ہے۔ فارسی ، سرائیکی اور اردو میں یکسان مہارت اور پختگی کرے ساتھ شاعری کرتے تھے۔

حضرت غلام حسن شہید کا کلام خودان کی زندگی میں اتنا معروف اور مقبول ہوا کہ مختلف محفلوں میں قول ان کی کافیاں اور غزلیں گایا کرنے تھے - چنانچہ ، نافع السالکین ۔ (ملفوظات حضرت سلیمان تونسوی مرتبہ امام الدین) ص ۱۱۲ پر ایک گھٹ ولی درج ہے جو حضرت غلام حسن شہید کی ہے۔ اور ، ظہور جمال ۔ (نذرانہ عقیدت) میں بھی موجود ہے اسر میان احمد قول نے گایا - ، نافع السالکین ۔ میں لکھا ہے -

،،روزے در حضور قبلہ من ابراهیم خان سرود کرد

اُچھے بیپل بینگھاں پیاں

سیاں دل مل جھوٹن گیاں

جھوٹن هیر سیال نی اج بی گھر آیا (۹)

آپ کی بہت سی تصانیف ملتی ہیں جو نثر اور شاعری کر مختلف موضوعات پر ہیں ان میں زیادہ تر فارسی زبان میں ہیں۔ ان کتابوں میں کچھ مطبوعہ ہیں اور کچھ قلمی صورت میں ملتی ہیں۔ آپ کی تصانیف کی تفصیل اس طرح ہے:

۱ - دیوان حسن (فارسی) ، مطبوعہ

۲ - انسائیح گلزار معانی در انسائیح عبارت صافی۔ یہ کتاب سکھہ عہد کرے فسادات میں ضائع ہو گئی۔

۳ - رسالہ موج دریا (فارسی) در باب کشف حقائق و حل دقائق مسئلہ توحید۔

۴ - بحر العواج (عربی)

۵ - حسنه در بیان مصطلحات صوفیہ یہ تینوں کتابیں نایاب ہیں۔

۶ - کلمات الانصار (عربی) اس کی نقل موجود ہے۔

۷ - نور الهدایت (مثنوی فارسی) یہ ۱۸۸۵ء میں نرسنگھہ پریس ملتان سر شائع ہوئی تھی۔

۸ - رسالہ نور الہدی (فارسی) یہ دونوں کتابیں آپ نے اپنے بڑے صاحبزادے مخدوم غلام یسین کرے لئے لکھیں اور ان کی نقل میرے پاس موجود ہے۔

۹ - رفیق الفقراء یہ نایاب ہے اور کہا جاتا ہے کہ آپ نے اپنے بیٹے

رکن الدین کریم لشیع لکھی تھی۔

۱۰ - انوار جمالیہ (فارسی) حافظ محمد جمال کی سوانح عمری ہے جو کہ مطبوعہ ہے۔

۱۱ - دیوان متفرقات (اردو، سرائیکی، هندی اور پنجابی زبان میں مختلف شعری اصناف)۔

غلام حسن شہید بحیثیت شاعر:

جبسا کہ عرض کیا جا چکا ہے کہ غلام حسن شہید، صوفی ہونز کر ساتھ ساتھ ایک پختہ گو، قادر الكلام اور خوش گفتار شاعر بھی تھے۔ ان کا فارسی، سرائیکی اور اردو کلام دستیاب ہے۔ ہم یہاں ان کریم فارسی کلام کا جائزہ پیش کرتے ہیں۔
نور ہدایت:

ان کریم فارسی کلام میں ایک متنوی اور ایک دیوان شامل ہے۔
متنوی کا نام „نور ہدایت“ ہے۔ جس کا ایک مخطوطہ میان بلاں بخش مجاور خانقاہ حضرت غلام حسن شہید کریم فرزند یار محمد نے ۲۹ محرم ۱۳۰۳ھ میں کتابت کیا۔ یہ نسخہ صاحبزادہ فیض الحسن سجادہ نشین خانقاہ حضرت شہید کی ملکیت ہے۔ یہ کتاب ۸۵ صفحات پر مشتمل ہے۔

متنوی کا آغاز مناجات سر ہوتا ہے۔ جس میں نہایت دلکش اور شاعرانہ انداز میں سوز عشق، جرأت پروانہ، آتش نور اور شراب دلنوواز کر ساتھ ایک ایسے دل کی طلب کی ہے جو مخزن سر ولایت، مطلع نور ہدایت، غواص بحر راز اور محرم خلوت خاص ہو

دلی در نسل ده پروردہ عشق

چون طفلان شیر رحمت خورده عشق

دشداز ب امداد حمد للہ علیہ وآلہ واصحیح

دلی از وادی ایمن رسیده
 چو موسی شعله آتش خریده
 دوسرًا عنوان „حمد“ کا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی ننا کا حق
 ادا کیا گیا ہے تیسرا حصہ حضور کی نعمت پر مشتمل ہے۔ حضور سعی
 کس آرزو کا اظہار کیا گیا ہے ملاحظہ فرمائیں۔
 بیا در حلقة رندان گذر کن
 خرد را رخصت از بیرون در کن
 گرو کن خرقہ زهد ریا را
 بگردان دور جام کبریا را
 گویا غلام حسن شہید کر نزدیک رندی، زهد ریا سر بہتر ہے اور
 عشق و مستی کی دنیا میں عقل و خرد کا گذرنہیں۔ اس کر بعد
 معراج کا ذکر ہے۔ پانچواں عنوان „در مدح پیر دستگیر روشن ضمیر
 ... حضرت محمد جمال اللہ“ ہے جس کر تحت اپنے مرشد اور پیر
 حضرت جمال اللہ ملتانی کی تعریف کی ہے۔ کچھ اشعار یہ ہیں:
 زہی پیری به همت دستگیری
 ز نور معرفت روشن ضمیری
 بظاهر هادی راه طریقت
 بباطن واقف سر حقیقت
 قضا هر لحظہ جویای رضایش
 اجابت چشم بر راهی دعايش
 رخش آئینہ دار نور مطلق
 دلش گوهر نثار حکمت حق
 جمالش را کمال دلستانی
 کمالش را جمال جاودانی

زہی حسن و زہی محبوی او

جهانی مبتلای خوبی او

مثنوی کر چھر عنوان کر تھت، "ایجاد آدم" کا مضمون باندھا گیا
ہے۔ ساتواں بند عشق کر بارے میں ہے۔

آٹھویں بند میں شاعر نے اپنی جوانی سے پیری تک کا احوال اور
اس مثنوی کا سبب تصنیف بیان کیا ہے کہ عہد طفلی سے عشق فسون
ساز کا شکار رہے۔ کبھی سوزِ محنت اور کبھی سوزِ نعمہ نے خرابی کی
صورت پیدا کی۔ کبھی نالہ و فریاد سے واسطہ رہا اور کبھی گریہ
ہائے پیغم سے۔ کبھی دل سے صبر و قرار چھن گیا اور کبھی دل کا
افسردہ آنکھوں کے ذریعہ بھے گیا۔ کبھی شوق نے دامن کھینچا تو کبھی
وحشت کے ہاتھوں گریبان چاک ہوا۔ القصہ سوانح عشق و جنون کے
کوئی کام نہ تھا کہ اچانک ایک حسین چھرے نے بجلی گرانی۔ اس کا
چھرہ غیرت مہ تھا کہ سورج کی آنکھ نے خواب میں بھی اسا
چھرہ نہ دیکھا ہو گا نتیجہ یہ نکلا کہ:

ز عشق آن جمال دل نوازم

حقیقت جلوہ گر شد در مجازم

رہ اندر عالم تجربید بردم

می از خمخانہ توحید خوردم

حجاب از روی هستی بر گرفتم

حساب زندگی از سر گرفتم

اس نے افسرده دلوں کو نئی گرم جوشی بخشی، مردوں کو حیات تازہ
دی اس نے ایک ایسا نغمہ سرمدی عطا کیا جس نے بے نواون کو نوا،
گم راہوں کو راہ، بیماروں کو شفا اور درد مندوں کو دوا دی۔

نویں بند میں منصور حلaj کے حوالے سے حدیث عشق بیان کی

بے . دسوائی حصہ ، سرو و قمری ، اور ، شمع و پروانہ ، کی تمثیل
سر عشق میں صبر و قرار ، برداشت اور حوصلہ مندی کی تلقین بر
مشتمل ہے۔ گیارہویں بند میں لیلی و مجنون کی حکایت بیان کی ہے ،
دونوں کے سوال و جواب بڑے دلچسپ ہیں ۔ نمونہ ملاحظہ فرمائیں :
چنیں آشفته و درهم چرانی ؟

بے زلفت گفت دارم آشنائی

بگفتا چون نیاتی جانب نجد ؟

بگفتا بسکہ رہ گم کردم از وجود

بگفتا از چہ کردی پیرهن چاک ؟

بگفت از دستبرد عشق بے باک

بگفتا چون خمیدست پشت زین سان ؟

بگفت اے جان من از بار هجران

بگفتا از چہ ای زین گونه بیمار ؟

بگفت از چشم شوخ چون تو دلدار

بارہویں بند میں ایک نوجوان کی محبت کا حال بیان کیا ہے ۔ پھر

تیرہویں اور چودھویں بند میں حکایت مجنون بمطابق مضمون سابق

منظوم کی ہے ۔ پندرہویں بند میں شیخ جنید ، سولہویں بند میں زلیخا ،

سترویں بند میں ابراهیم بن شماں ، اٹھارویں بند میں ایک زاہد ،

انیسویں بند میں مجنون اور چوبیسویں بند میں فرهاد کی حکایت کے

حوالے سر عشق و جنون کے مختلف مراحل اور تصوف کے متعدد

مسائل کی وضاحت کی ہے ۔ پچیسویں بند میں پھر مجنون کی حکایت

ہے ۔ چھبیسویں بند ، شاہ شجاع کرمانی کے باختیار دولت جاودانی

ترک سلطنت فانی کرده بود ، کے عنوان سر حکایت بیان کی ہے ۔ اگلے

سات بندوں میں مجنون ہی کے حوالے سر دانائی و نادانی ، مستی و

ہشیاری ، طالب و مطلوب ، عشق و هوس، جانفشنائی و ناتوانی ...
وغیرہ کرے موضوعات پر خامہ فرسائی کی ہے۔ چونتیسوں بند میں زن
و عیار کی حکایت بیان کی ہے۔ اگلے تین بندوں میں پھر حکایت
مجنوں کرے بند کھولے ہیں اڑتیسوں بند میں حضرت خواجہ غریب
نواز کی حکایت کرے حوالے سے سلوک کی راہ میں ترک دنیا و عقبی کا
مضمون باندھا ہے۔ اگلے دو بند پھر مجنوں کے ذکر کے حامل ہیں۔
مجنوں کا انجام حیات جاودانی ہے۔ اس لئے کہ اس کا عشق صادق
تھا۔ یون تو ہر کمال کو زوال ہے لیکن کمال عشق کو زوال نہیں ہوتا
غلام حسن شہید فرماتے ہیں :

زوالی می پذیرد ہر کمالی

کمال عشق را نبود زوالی

مگر این عشق آب زندگانی است

کہ تائیرش حیات جاودانی است

چہ باک از عاشق از غم جان سپارد

کہ عشقش زندہ جاوید دارد

شہید عشق الحق زندہ جان است

کہ مرگ او حیات جاودان است

آخری بند میں اس مجموعہ اسرار کی قبولیت کی دعا کی ہے کیونکہ
شاعر کا دعویٰ ہے کہ یہ سحر آفرین گرامی نامہ ہے چونیا آئین اپنی
اندر رکھتا ہے اور تحفہ ملتان ہے۔

گرامی نامہ سحر آفرین است نو آئین تحفہ ملتان زمین است

انھیں یہ پندار بھی ہے :

نهار صد معنی اندر ہر عبارت

بے ہر معنی نہفته صد اشارت

سوادش داده از عنبر سرشنی

نشان از زلف حوران بهشتی

سطورش نقشہ از زلف سنبل

حروفش حلقة از تار کاکل

اس مثنوی کر اشعار کی کل تعداد ۱۲۶۰ ہے۔ ان اشعار میں تصوف اور عشق کر مسائل، حکایات اور تمثیلوں کے حوالے سے زیر بحث لائے گئے ہیں۔ پوری مثنوی کا اسلوب بیرونی سادہ لیکن شاعرانہ ہے۔ تشبیہ، استعارہ اور علامتوں کے ذریعے مختلف موضوعات کی وضاحت بڑے دلنشیں انداز میں کی گئی ہے۔ پوری نظم روان دوان، مربوط اور دلکش آهنگ کی حامل ہے۔ یہ کہنا بچانہ ہو گا کہ غلام حسن شہید شاعرانہ صلاحیتوں سے پوری طرح منصف تھے اور مختلف زبانوں میں شعر کہنے کی اُنہیں پوری قدرت حاصل تھی۔
دیوان حسن (فارسی)

یہ دیوان مطبوعہ ہے۔ اس کا قلمی نسخہ اسد نظامی (۱۰۱) کی ذاتی لائبریری میں موجود ہے۔ ۱۶۲ صفحات کا یہ دیوان فقیر یار محمد خلف میان بلاں بخش مجاور خانقاہ حضرت غلام حسن شہید کا کتابت شده ہے۔ اس کے آخر میں اس کی تاریخ کتابت ۲۳ شعبان المظہم ۱۲۰۳ھ درج ہے۔ گویا یہ دیوان مثنوی، "نور هدایت" سے ایک سال پہلے کتابت کیا جا چکا تھا، اس دیوان کا آغاز اُسی نعمت سے ہوا ہے جو مثنوی "نور هدایت" میں بھی شامل ہے لیکن مثنوی "نور هدایت" اور "دیوان حسن" میں درج شده ایک ہی نعمت کے بعض شعروں میں تبدیلی کی گئی ہے۔ یہاں ان کی نشاندہی کی جاتی ہے، "دیوان حسن" میں یہ شعر یوں درج ہے۔

جمالش مخزن اسرار معنی

جیونش مطلع نور تجلی

مثنوی „نور هدایت“ میں اس شعر میں تبدیلی کر دی گئی ہے اور اس کی صورت یوں ہو گئی ہے ۔

کمالش مخزن اسرار معنی

جمالش مطلع انوار معنی

اسی طرح چند اور اشعار یہ ہیں :

بے مستی کرد چون چشمش اشارت

بغمزہ ملک دل را کرد غارت (دیوان حسن)

دو چشم مست او با یک اشارت

متاع کشور دل کرد غارت (مثنوی نور هدایت)

سزد گر آدم خاکی سرشتی

دهد برداہ خالش بہشتی (دیوان حسن)

بخالش چونکہ آدم دیده بگشاد

بدام عشق او زین دانہ افتاد (نور هدایت)

چوهر کف ساغر صہبا روان کرد

کلیم اللہ یدبیضا نہان کرد (دیوان حسن)

چودست خویش را گوهر فشان کرد

کلیم اللہ یدبیضا نہان کرد (نور هدایت)

جمالش را کہ مہ شرمندہ اوست

هزاران ہم چو یوسف بندہ اوست (دیوان حسن)

زہی مہری کہ مہ شرمندہ اوست

هزاران ہم چو یوسف بندہ اوست (نور هدایت)

حیات جان بسر همچون نباتش

حضر لب تشنہ آب حیاتش (دیوان حسن)

دوای جان، لب همچون نباتش

حضر لب تشنہ آب حیاتش (نور ہدایت)

بعض مصروعوں میں یکسانی اور بعض میں تبدیلی محض پہلو بند
میں ہے اس بند کرے بعد باقی اشعار بالکل مختلف ہیں۔ نعت کرے بعد
ص ۱۱ سے غزلیات شروع ہوتی ہیں۔

حسن کرے ہاں زیادہ تر حقیقت اور معرفت کرے شعر ملتی ہیں۔ بظاہر
ان کا مفہوم مجازی معلوم ہوتا ہے لیکن غور کریں تو اس کی دوسری
سطح ظاہر ہونی لگتی۔ گویا حسن کرے ہاں مجاز اور حقیقت کا
امتزاج ہے۔ اس میں ایک سطح مجازی مفہوم کی ہوتی ہے اور
دوسری تھے حقیقت کی۔ حسن کرے یہاں معاشرتی موضوعات یا
سیاسی مضامین نہیں ہیں۔ نہ مروجہ نظام پر تنقید یا تبصرہ ہے۔
سامنے کی زندگی کرے حوالی بھی بہت کم ہیں۔ انکی شاعری تو
سیدھے سادے عشق و محبت کرے مسائل، صوفیانہ حقائق، عارفانہ
مضامین اور مجاز کرے پردنے میں حقیقت کرے بیان پر مبنی ہے۔ حسن
کی شاعری کا نقطہ ماسکہ (Nucleus) عشق کا توانا جذبہ ہے جو
کائنات اور کائنات کی ہر چیز کا محور ہے۔ سارا نظام اسی کرے گرد
گھوم رہا ہے۔ حسن، عشق کرے حوالی سے عاشق اور اس کی واردات
کا اور معشوق کرے حوالی سے اس کرے سارے متعلقات کا ذکر تفصیل سے
کرتی ہیں۔ چنانچہ دیوان حسن کا بیشتر حصہ ان تینوں موضوعات کرے
گرد گھومتا ہے۔ حمد و ثناء، نعینی غزلیات اور اہل بیت کی تعریف میں
لکھئے گئے اشعار کا محرك بھی یہی جذبہ عشق ہے۔

جیسا کہ ابھی کہا گیا ہے کہ حسن کی شاعری کا مرکز جذبہ

عشق جو سارے جذبوں کا سرتاج اور صدر نشین ہے۔ اس جذبے کا رس جس نے بی لیا وہ کیف سرمدی کا مالک بن گیا جو شراب حقیقت کے مست مست ہوتے ہیں، ان کی زندگی بعنوان دیگر ہوتی ہے وہ بظاہر مثل ہوتے ہیں لیکن زندگی کا حسن انهی کی بدولت قائم ہوتا ہے۔ وہی امکانات کے متخصص اور محرک ہوتے ہیں۔ وہ بظاہر خاک کی پستیوں میں گرے ہوئے دکھائی دیتے ہیں لیکن ان کا مقام بلند عرش کی رفتار سے بھی ماورا اور بالا ہوتا ہے۔ دراصل وہ اپنا دل، یا، کی زلفوں کے خم و بیج میں اسیر کر کر باقی ساری دنیا سے آزاد ہو جاتے ہیں۔ لوگوں کی نگاہ میں عام دکھائی دینے والے یہ،،، رند می پرست،،، می عرفان،،، کے بلانوش اور عرش نشین ہوتے ہیں
مامست زبادہ استیم

هر چند کہ نیستیم هستیم

از عرش بلند تر نشستیم

هر چند کہ همچو خاک پستیم

دل در خم زلف یار بستیم

از بند زمانہ باز رستیم

ای محتسب از حسن چہ خواہی

بگذار کہ رند می پرستیم (ص ۹۲ - ۹۳)

حسن کی اس بلند نشینی، رفتار و عظمت کا باعث وہ عشق ہے جس نے حیات کو پُر معنی بنایا۔ زندگی کا سارا حسن، سارے ہنگامے عشق کی بدولت ہیں۔ اسی لئے تو حسن فرماتے ہیں کہ ہم نے عبادت اور اطاعت کا منصب فرشتوں کے ذمہ لگا دیا اور اپنے آپ کو عشق کر لئے وقف کر دیا۔ کیونکہ عشق کا گداگر کوئی کافی فرمائروا ہوتا ہے۔ جو عشق کے کام میں لگ گیا اس کے لئے باقی سارے کاروبار بیکار

هو گئے - اقلیم عشق میں عقل کا گذر نہیں ہوتا جو عشق کا راز دار
بن جاتا ہے اس کے سامنے سارے اسرار حق کھل جاتے ہیں . عشق کی
لذیذ اور خوشگوار شراب دیوانہ و مست کر دیتی ہے .

ما از دل و جان فدائی عشقیم

قربان سروید نای عشقیم

طاعت بفرشتگان سپردیم

مسار زده از برای عشقیم

شاہنہشہ کشور دو کو نیم

زین روی کہ ماگدای عشقیم

از هر همه کار و بار بیکار

مشغول بکار و بار عشقیم

بگذار سخن ز عقل بگذار

از ماکہ سخن گذار عشقیم

دیوانہ و رند مست سرشار

از بادہ خوشگوار عشقیم

اسرار حقائق از ..حسن، یرس

زین روی کہ راز دار عشقیم (ص ۹۳ - ۹۴)

غلام حسن شہید عشق و جنون کے سرور سرشار ہو چکر
نهیں اور انہوں نے جام محبت محفل یاران میں گھمایا اور سب کو
صلا دی کہ کوئی تو ..حریف میں مرد افگن عشق، ثابت ہو، خود کو
تو انہوں نے عشق کے ساتھ باندھ ہی لیا تھا۔
کافر عشق میں خود وارستہ ام

بر کمر زنار زلفش بستہ ام (ص ۱۰۱)

جب عاشق اپنی ذات کو محبوب کی ذات میں فنا کر دیتا ہے یا صوفی

فنا فی الله کی منزل پر پہنچ جاتا ہے تو پھر دُوئی کا تصور مث جاتا
ہے۔ کثرت وحدت میں گم ہو جاتی ہے۔ پھر ہر صورت زیبا اس کی
صورت بن جاتی ہے۔ اشیاء کی ظاہر اور باطن میں وہ سرایت کر جاتا
ہے۔ کائنات کی ذرے ذرے میں اس کا ظہور ہونے لگتا ہے۔ خورشید کی
تجلی میں بھی وہی ہوتا ہے۔

معنی ہر صورت زیبا منم

چون نگری صورت و معنی منم

کثر اسماء و صفات از منست

وحدت موصوف و مسمی منم

ظاهر من این همه اشیاء بود

باطن این جملہ اشیاء منم

در همه ذرات ظہور منست

کرده چو خورشید تجلی منم (ص ۱۰۲)

عشق کی پر لگ جائیں تو پھر لامکان تک رسائی معمولی بات ہے۔
زمان و مکان کی گرفت سیر آزادی مل جاتی ہے۔ پھر عین غیاب میں
حضوری اور عین حضوری میں غیاب کی قدرت حاصل ہو جاتی ہے
۔ عشق کی بدولت وہ جمال معنی حاصل ہوتا ہے کہ زمین و آسمان پر
نور ہو جائز ہیں۔

ما طائر اوج لامکانیم

وارسته زیند آشیانیم

برتر زمکان و در مکانیم

بیرون ز جهان (و) در جهانیم

در عین بطن خود عیانیم

در عین ظہور خود نہانیم

همچون „حسن“ از جمال معنی

مانور زمین و آسمانیم (ص ۱۰۵-۱۰۳)

یہ عشق بوالہوسی کا نہیں حقیقت اور صداقت کا عشق ہے۔ اس
عشق میں من و تو کا فرق مٹ جاتا ہے۔ پھر سارا جہاں آئینہ بن جاتا
ہے جس میں ایک ہی چھرہ منعکس دکھانی دیتا ہے۔
من رخود برخود تجلی می کنم
خویش را برخویش شیدا می کنم

این جہاں آئینہ روی من است

صورت خود را تماشامی کنم

لیکن آن قدر کثر خویش پنهان می شوم

راز خود را آشکارا می کنم

لیکن اسی شوم در پرده پنهان ای عجب

هر قدر بیج پرده خود را می کنم

اویچاپر این ظہور و این بطون سر من است

سر خود برخود هویدا می کنم

دوائیل خود منم عین تمبا چوں „حسن“

پس چرا خود را تمبا می کنم

(ص ۱۰۶)

عشق کا آغاز جلتا اور اس کا انجام موت ہے لیکن یہ موت
وصال جانا کی تمهید ہے۔ اس کی ابتداء بھی عجیب ہوتی ہے اور
اس کی انتہا بھی عجیب ہوتی ہے۔ عشق میں قدم رکھنا آسان بھی
نہیں۔ یہ راہ بال سری زیادہ باریک اور تلوار سری زیادہ تیز دھار ہوتی
ہے، لیکن چلنے والے اس راہ پر چلتی ہیں اور جان ہتھیلی پر رکھ کر
چلتی ہیں اور پار بھی اترتی ہیں۔

دراصل یہ جذبہ کوئی نیا جذبہ نہیں ہے یہ جذبہ انسان کو ازل سرے ودیعت ہوا تھا - شراب کہنہ کی طرح عشق کہنہ کی تاثیر بھی بڑھتی چلی جاتی ہے -

ما عاشقیم و در ازل از عشق زاده ایم

روی تو دیده ایم و دل از دست داده ایم

ما مشکلاتِ عشق نہ آسان شمرده ایم

سرداده ایم تا به رہش پا نہاده ایم

(ص ۱۰۸)

آغاز عشق سوختن انجام مُردن است

جان داده ایم تاکہ بجوانان رسیده ایم

(ص ۱۰۸)

لیکن عشق کا امرت ہر بوالہوس کر لئے نہیں ہوتا - دارورسن کی آزمائش سے گذرنے والی ہی حیات چاوداں کرے مالک بنتے ہیں حسن اس حقیقت کی تھے تک پہنچ چکرے ہیں کہ حلاوتِ لبِ شیرین کرے ذاتی سر وہی شاد کام اور بہرہ مند ہو سکتا ہے جو فرهاد کی طرح کوہ بی ستون کا سینہ چیر کر جوئی شیر لاتا ہے نہ کہ وہ خُسروان بے نصیب کہ جو پانی کر لئے نہ تو جستجو کرتے ہیں اور نہ ہی اس جذبے سے آشنا ہوئے ہیں -

حلاوتِ لبِ شیرین به پرس از فرهاد

کہ خسروان جہان کم چشیدہ اند آن را

(ص ۱۸)

چنانچہ یہ حقیقت ہے کہ اهل دل اور اهلِ ذوق ہی غمون کرے خریدار ہو سکتے ہیں کہ غم خریدنا نفع کا سودا نہیں لیکن اس گوہر یکتا کی قدر و قیمت ایک جوہری ہی جان سکتا ہے - جنون سرے

سودا کرنے والی شکست سر دو چار ضرور ہوتی ہیں لیکن اس
شکست پر ہزاروں بی روح فتوحات قربان کی جا سکتی ہیں۔ حسن
نے تجاهل عارفانہ سر کام لیتی ہونے، "غم" کر وجود پر اظہارِ حیرت
کیا ہے کہ آخر اس کو پیدا کرنے کا سبب کیا تھا، لیکن انہیں یہ
عروف حاصل ہے کہ، "غم" کر خریدار اہل محبت ہوتی ہیں جو اس
متاعِ عزیز کر حصول کر لئے سب کچھ لٹا دیتی ہیں۔
غمی کہ اہل محبت خریدہ اند آن را
ندانم از چه سبب آفریدہ اند آن را

(ص ۱۸)

لیکن جب اہل دل اور اہل ذوق کو ظلمت شب میں منزل کا
نشان نہیں ملتا تو وہ عکس عذارِ محبوب کر ستاروں کی روشنی سر
نشان راہ پاتا ہے اور جب سالک کو سلوک کی راہ میں مقامِ حیرت سر
واسطہ پڑتا ہے جب تجلیات کا سلسلہ معطل ہو کر اس کی پریشانی
اور ماہوسی کا سبب بنتا ہے تو وہ محبوبِ حقیقی کر حسن مطلق کی
جوت دل میں جگا کر استقامت پاتا اور اپنی منزل مراد کی طرف روان
دوان رہتا ہے۔ عاشق شب رو بھی ظلمت شب میں محبوب کر گل
عذاروں کر ستارے چمکا کر راہ پاتے ہیں۔ در حلقہ های طرہ ز عکس عذار تو

در ظلمت شب است نمایاں ستارہ ها

(ص ۲۰)

عشق کا محرک محبوب کا وجود ہے جو حقیقی اور ابدی ہے اور
اس کا پرتو محبوبِ مجازی میں بھی جلوہ فگن ہوتا ہے۔ اس لئے
محبوب کر سراپا کی تعریف اردو اور فارسی شاعری میں عام ہے۔
چنانچہ اس مضمون میں حسن اور جدت کا وصف ابھارنا مشکل ہو

گیا۔ کیونکہ اکثر صورتوں میں تکرار اور یکسانیت کا نقص خود بخود پیدا ہو جانا ہے۔ حسن کرے یہاں محبوب کر لئے شیرین دهن، گلبدن، سیمین دقن، گل پیرهن، سنبل و یاسمین، جان حسن جیسی ترکیبیں نہ صرف بلحاظ قوافی ایک مترنم کیفیت پیدا کر دیتی ہیں بلکہ پوری غزل میں ایک مخصوص صوتی نظام کی فضای ابھار کر چمن گل کرے تلازمات کرے ساتھ سراپا نگاری کرے فن کو حسن اور جاذیت کا رنگ عطا کر دیتی ہیں۔ ایک ہی غزل کرے چند اشعار ملاحظہ فرمائیں حرف ندا کرے ساتھ ان حسین ترکیبوں کا استعمال غزل میں ایک کیف سا پیدا کر دیتا ہے۔

شیرین دھنا طوطی شکر شکنا
شمشاد قدما سمن برا گلبدن
جادو نگھا پری نزادا صنمبا
زریں گلہا دلب سیمین ذقنا
از قامت و زلف عارض زیبا
خجلت ده سرو و سنبل و یاسمنا
چوں غنچہ به عرض لب گشایم اکنوں
رشک چمنا نگار گل پیرہنا
یک شب چہ شوی اگر درائی به برم
چون جان بہ هزار لطف جان حسنا

(ص ۳۲)

آخر ابسر شعر کیوں نہ ہوں جب تخلیقی محرك اتنا شدید ہو کیونکہ محبوب کا سراپا دلربائی کرے اتنے انداز رکھتا ہے کہ انسان تو انسان قدسی بھی اس کا شکار ہوئے بغیر نہیں رہتے۔

چنین کہ زلف و خط و خال دلربا است ترا

شکار مرغ دل قدسیان رواست ترا

(ص ۱۲)

احساس حسن کی وجہ سے محبوب اپنے انداز دلربائی آزماتا بھی
بے اور غرور حسن اسر رحم اور لطف و کرم کا آشنا بھی نہیں ہونے
دیتا اسی لئے تو عاشق پکار اٹھتا ہے۔

چہ سخت سنگدلی ای صنم معاذ اللہ

نہ بیم خلق نہ اندیشہ خدا است ترا

(ص ۱۲)

عشق محبوب کرے حوالی سر عاشق پر ظلم و ستم کا جو سلسلہ
شروع ہوتا ہے وہ لامتناہی ہے۔ عشق کی کلفتوں کرے ہاتھوں عاشق کا
خانہ ہی خراب نہیں ہوتا اشک پیغم کی روانی کتنی بربادیاں بھی
لاتی ہے۔ چنانچہ گریہ شوق کی تباہ کاریاں دیکھیے کہ دل خستہ و
خراب کو بھا کر لے جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح جیسے سبل روان
حباب کو خانہ بدوش کر دیتا ہے۔ ایسا خوبصورت مضمون بہت کم
دیکھنے میں آتا ہے اس مضمون میں جدت بھی ہے اور حسن و
انفرادیت بھی ہے۔ بالکل نیا خیال ہے اور نہایت دلکش انداز میں باندھا
گیا ہے۔ شعر دیکھیے:

گریہ شوق می برد قالب خستہ را ز جا

خانہ بدوش می کند سبل روان حباب را

(ص ۱۳)

عاشق، محبوب اور محبت کرے ساتھے مر و نعمہ کا ذکر لازمی ہے۔
شراب و نعمہ اہل عیش کرے لئے تحریک کا باعث بھی ہے اور آرام و
سکون کا موجب بھی لیکن اہل صفا — نغمہ سرمدی اور مر عرفان

سر „نور صفا“ اور „سر خدا“ حاصل کر تجھے ہیں چنانچہ حسن زاہد
 خشک کو بہ مشورہ دیتے ہیں کہ وہ میکدے میں جا کر بادہ معرفت
 سر اپنے باطن کو پاکیزہ کر لیے اور اس ریا کے بوریا کو جو منافقت کی
 بو دے رہا ہے اُس شراب سر دھو ڈالیں -
 ساقی زبادہ نور صفا میدھد مرا
 مطرب خبر ز سر خدا می دھد مرا
 زاہد برو بہ میکدہ و زبادہ پاک کن
 این بوریا کہ بوی ریا میدھد مرا
 (ص ۳۰)

یوں تو „دیوان حسن“ کریں پیشتر اشعار حقیقت اور معرفت کی
 مضامین کے حامل ہیں لیکن بہت سی غزلیں ایسی ہیں جو خالصتاً
 نعتیہ ہیں اور حضور سر حسن کی عقیدت اور محبت کا ثبوت ہیں -
 اسی طرح „دیوان حسن“ میں اہل یت اور واقعہ کربلا کے بارے میں
 ہی اشعار کا اچھا خاصا خزانہ موجود ہے۔ حضرت امام حسینؑ کی
 شہادت پر یہ اشعار اپنی مثال آپ ہیں :
 در ماتم حسین که ارض و سما گریست
 ماہی بآب مرغ باوج ہوا گریست
 تنہا نہ امت از غم آل عبا گریست
 هم مرتضی فغان زد و هم مصطفی گریست
 میدان خاک تیرہ شد و آسمان سیاه
 آن دود آه ابر شدو جابجا گریست
 اندیشه کن کہ شور قیامت شود بہا
 بنت رسول چونکہ بروز جزا گریست
 (ص ۳۹ - ۴۵)

غلام حسن شہید کو اپنے مرشد (حافظ جمال اللہ) سے جو عقیدت اور محبت تھی اس کا اظہار انہوں نے نہ صرف سرائیکی شاعری میں کیا بلکہ فارسی غزلوں کے اشعار میں بھی کیا ہے۔ دیوان حسن میں (ص ۸۰ پر) ایک غزل ہے جس کا مطلع ہے :

ناگہاں برمن تجلی کرد عشق

شور محشر تازہ بربا کرد عشق

اسی غزل کا مقطع حضرت جمال اللہ کے بارے میں ہے۔

جز جمال اللہ ندیدیم اے حسن

ناکہ چشم باطنم وا کرد عشق

(ص ۸۱)

اس کے بعد والی غزل میں جو اسی بحر میں ہے اور جس کا مطلع پہلی غزل کے مطلع سے ملتا جلتا ہے یعنی :

جلوہ از ناگہاں چون کرد عشق

صد دل و صد دیدہ پرخون کرد عشق

(ص ۸۱)

مقطع دیکھیں :

همچون مجنون صد عاشق شوریدہ را

بر جمال اللہ مفتون کرد عشق

حسن کی شاعری پاکیزہ مضامین تک ہی محدود نہیں ہے اس میں فن کی پاکیزگی اور حسن بھی موجود ہے۔ شاعرانہ حسن مضمون کی عظمت اور بلندی کے ساتھ ساتھ لفظوں کے برمحل استعمال، تشبیہ و استعارہ اور علامتوں کے موزوں اور مناسب بر تاؤ، صنائع لفظی کے حسن کا مرہون منت بھی ہوتا ہے۔ کیونکہ بنیادی طور پر شاعری کا تعلق لفظوں کے فنکارانہ استعمال پر منحصر ہوتا ہے۔

حسن کر یہاں فنی لطافتیں بدرجہ اتم موجود ہیں - نغمگی ، تکرار
لفظی ، صوتی حسن ، مترنم بھروس ، روان دوان ، دلکش اور خوبصورت
قوافی اور قریب المأخذ تشییہ و استعارات کا استعمال غلام حسن
شہید کر کلام میں عام ہے۔ ایک غزل کر چند اشعار ملاحظہ فرمائیے
(یہ ساری فنی خوبیاں اس میں نظر آ جائیں گی) ۱

قطرہ قطرہ ز سر اشکم شدہ دریا دریا
داع داغ داغم ہمه گل گل شدہ صحراء صحراء
دی و امروز به امید وصالت بگذشت
بعد ازین نیست مرا طاقت فردا فردا
دل جدا ، عقل جدا ، ہوش جدا ای ظالم اور معرفت کر
گشته آوارہ بکویت ہمه تنہا تنہا
دل چرا شہرہ بازار ملامت نشود
کرده بی سود به عشق این ہمه سودا سودا
جز تو بر حاشیہ دل نکشم نقش دگر
من و وابستگی غیر تو حاشا حاشا
(ص ۲۷)

اسی طرح غزل کر یہ اشعار دیکھیں :
ترک خونخوار من این است این است
آنکه او رہزن دین است این است
آنکه چون مردمک اندر چشم
روز و شب پرده نشین است ، این است
آنکه چون زلف خود از روی عتاب
یک لایہ بہ «حسن» چین یہ جبین است ، این است
(ص ۳۶ - ۳۷)

صنعت تضاد کی مثال دیکھئیج :
 ما مشکلات عشق نہ آسان شمردہ ایم
 سر دادہ ایم تابه رہش پانہادہ ایم
 (ص ۱۰۸)

یا صور على الکائنات ملائکتی هستینے

ظاهر من این همه اشیاء بود
 باطن این جملہ اشیاء منم

کثرت اسماء و صفات از من است

وحدت موصوف و مسمی منم

(ص ۱۰۲)

لف و نشر کی مثال ملاحظہ فرمائیج

خط مشکین و رخ زیبا وزلف دلکشت

نافہ چین ، آفتاب خاور و مشک ختن

(ص ۱۱۸)

تشبیه کی مثال ملاحظہ هو :

قد رعنای آن سرو دل آرا

قیامت بود قامت نام کردند

(ص ۵۵)

ایک شعر میں دیدہ کو حباب کر ساتھ تشبیه دی ہے جو نادر ہے -

آنکھ کر ساتھ رونے کا تصور یا دریا کا تلازمہ عام ہے لیکن آنکھ کو

حباب کہہ کر دریا کو اس میں اسیر کرنے کا خیال بالکل نیا ہے - شعر

ملاحظہ فرمائیج

حسن زدیدہ گریان خویش حیرانم

کہ در حباب نہان کرده اند دریا را (ص ۱۳)

بلاشبہ کیف چشم کو شراب کی تاثیر کر ساتھ مشابہت دینا
کوئی نئی بات نہیں لیکن اس عام مضمون کو حسن نے جس
خوبصورت انداز میں باندھا ہے وہ ان کی جدت فکر اور جودت طبع کا
بین ثبوت ہے، فرمائی ہیں :
کیفیتی کہ در نگہ چشم ساقی است
هرگز نیافت بادہ فروش از شراب ها
(ص ۲۶)

حوالہ

- ۱ - ملتان میں اردو شاعری، از ڈاکٹر طاهر توسوی ص ۱۵۲ اور منتخبات از دیوان حضرت حسن (قلمی) ص ۶۹ (اسکی فتوث سیٹ کابی میں پاس ہے) — البتہ اولیائی ملتان، از فرحت ملتانی ص ۱۳۳ اور، ارض ملتان، از شیخ محمد اکرام ص ۲۳۲ میں آپ کا سال ولادت ۱۳۰۲ ہـ لکھا ہے جو کہ درست نہیں ہے اس لئے کہ آپ حافظ محمد جمال کی خلیفہ نہیں اور آپ نے ان سے تعلیم حاصل کی تھی جنکا سال وفات ۱۲۲۶ ہـ ہے۔ اس لئے ۱۳۰۲ ہـ آپ کا صحیح سال ولادت ہے۔
- ۲ - ارض ملتان، از شیخ محمد اکرام ص ۲۳۲
- ۳ - اولیائی ملتان، از اولاد علی گیلانی ص ۲۶۲
- ۴ - نواب مظفر خان شہید اور اس کا عہد، از عمر کمال خان ص ۲۹۷
- ۵ - ملتان میں اردو شاعری، از ڈاکٹر طاهر توسوی ص ۵۲، منتخبات از دیوان حسن ص ۶۹ (قلمی) سال ولادت کی طرح فرحت ملتانی اور شیخ محمد اکرام نے آپ کا سال وفات بھی ۱۳۶۵ ہـ بتایا ہے جبکہ حکم چند نے، تواریخ ملتان، ص ۸۸ میں آپ کا سال وفات ۱۲۲۶ ہـ اور عمر کمال خان نے، نواب مظفر خان شہید اور اس کا عہد، میں ص ۲۹۷ پر ۱۸۳۸ء بتایا ہے جو درست نہیں ہے۔
- ۶ - تواریخ ملتان، از حکم چند ص ۸۸۔ مزید حوالی کر لئے دیکھئے، اولیاء ملتان، از اولاد علی گیلانی ص ۲۶۳۔
- ۷ - اولیائی ملتان، از بشیر حسین ناظم ص ۱۱۳۔
- ۸ - ارض ملتان، ص ۲۳۲۔
- ۹ - نافع السالکین ص ۱۱۲
- ۱۰ - جناب اسد نظامی چک ۱۰ جہاں امان منڈی کی رہنی والی درویش صفت انسان ہیں ان کیج پاس سینکڑوں قلمی نسخے اور ہزاروں نایاب کتابیں موجود ہیں۔

حکیم محمد حسین خان شفا * کے انتہے متعلق جو کل لئے اشیاءں
 رضا لائزیری رام پور میں میر علی الکاتب السلطانی
 کی تحریریں
 رضا لائزیری رام پور (ہند) اپنے نوادر کے اعتبار سے علمی دنیا
 میں معروف ہے۔ اس وقت یہاں کوئی ستھر ہزار قلمی کتابیں ہیں۔
 ان میں سے بعض کا تعلق بغداد، اندلس، مکہ، مدینہ، ایران، عراق
 اور افغانستان کے ان شاہی کتب خانوں سے ہے جو اب صفحہ ہستی پر
 موجود نہیں رہے۔ یہ مخطوطات شاہان سلف کی مہروں اور تحریروں
 سے مزین ہیں۔

۱۸۵ء میں ہندوستان میں جو ہنگامہ ہوا اس میں دہلی میں
 شاہان مغلیہ اور لکھنؤ میں شاہان اودھ کے کتب خانے بر باد ہو گئے۔
 وہاں کی کتابوں کا بڑا حصہ تباہ اور منتحر ہو گیا۔ رام پور کے نواب
 کلب علی خان (۱۳۰۳ھ) نے ان منتحر کتابوں کو جمع کرنے کا اهتمام
 کیا۔ ان کے علم میں آیا کہ کچھ ایسی کتابیں جن پر بابر، جہانگیر
 اور شاہجہان وغیرہ کی تحریریں ہیں بنارس میں کسی کتب فروش
 کے پاس ہیں۔ نواب نے ۱۸۸۱ء میں اس کتاب فروش سے ایک ایسا

* فہرست نگار رضا لائزیری رام پور، آثار: ۱۔ فرمائروایان رام پور۔ ۲۔ رضا لائزیری رام پور۔

۳۔ علامہ نجم الفنی خان۔

ہی مخطوطہ خریدا جو اب رضا لانبریری میں محفوظ ہے اور اس وقت ہمارے زیر بحث ہے ۔

یہ مناجات خواجہ عبداللہ انصاری اور صد پند لقمان کے مخطوطے ہیں جو کبھی یک جامبل نہیں، یہ نسخہ کئی جهات سے نادر اور اہم ہیں ۔

اولاً یہ معروف نستعلیق نویس میر علی الکاتب السلطانی کا نوشته ہیں ۔

ثانیاً ان پر مغل سلاطین اور امراء کی تحریریں اور مہریں موجود ہیں ۔

میر علی ہروی کی شخصیت، فن اور مکتبات سے متعلق ایک نمائش اور سمینار لندن میں ہو چکا ہے۔ جس میں دنیا کے مختلف کتب خانوں سے میر علی کے ۳۳ نوشتے کی نمائش ہونی۔ لیکن رضا لانبریری کے ذخیرہ سے دنیا بے خبر رہی اور کوئی بھی محقق ان کتابوں کی نشاندہی نہ کر سکا جو بخط میر علی، رام پور میں موجود ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ رضا لانبریری کے تمام مخطوطات کی فہرست کی عدم اشاعت ہے۔

نسخوں کا تعارف

مناجات خواجہ عبداللہ انصاری کا نسخہ دس صفحات پر مشتمل ہے اور ۹۲۱ھ میں کتابت ہوا ۔

صد پند لقمان کا نسخہ بھی دس صفحات پر محیط ہے اور اواسط ذی حجه ۹۲۵ھ میں لکھا گیا۔ ترقیمه کی عبارت یوں ہے :

”تمت علی یہ العبد الفقیر میر علی الکاتب

السلطانی فی اواسط ذی حجه سنہ

خمس و أربعين و تسعمائیہ المہجریہ“

میر علی الکاتب سلطانی

اب یہ امر تحقیق طلب ہے کہ ان دو رسائل کا کاتب آیا وہی معروف استاد خط اور نستعلیق نویس میر علی ہروی ہے جس کرے حالات خط سے متعلق کتابوں میں ملتے ہیں یا اسی نام یا دستخط کرے ساتھ کوئی دوسرا کاتب ہے۔

اسلامی خطاطی اور خطاطوں کے احوال و آثار پر گہری نظر رکھنے والے ایرانی محقق مرحوم مہدی بیانی نے اپنی کتاب "احوال و آثار خوش نویسان" (نستعلیق نویسان) میں مسلسل شمارہ ۲۰۳ اور ۲۰۴ کے تحت، "میر علی ہروی" نامی دو خطاطوں کا ذکر کیا ہے (۱) اول الذکر تو وہی معروف خطاط ہے جو هرات میں سلطان حسین بایقرا کا مقرب تھا۔ اور اسی نسبت سے "سلطانی" اور "کاتب السلطانی" کہلاتا تھا۔ (۲) مرحوم بیانی نے اس کے سال وفات پر بحث کرتے ہوئے لکھا ہے کہ انہوں نے میر علی ہروی کی کچھ ایسی تحریریں دیکھی ہیں جن پر سال ۹۵۰ھ کے دستخط ہیں (۳) اور صحیح ترین قول یہ ہے کہ وہ ۹۵۱ھ میں فوت ہوا تھا۔ (۴)

مرحوم بیانی نے اس کے آثار کی جو فہرست درج کی ہے اتفاق سے اس میں بھی مناجات عبدالله انصاری اور نصایح لقمان کی تحریروں کا ذکر ہے۔ مناجات کا نسخہ بقلم دو دانگ عالی بارقم و تاریخ : "کتبه العبد الفقیر المذنب علی الکاتب فی سنہ ۹۳۵ بیلدة بخارا" تهران کے ایک ذاتی کتب خانے میں ہے۔ (۵)

نصایح لقمان کا نسخہ بقلم نیم دو دانگ ممتاز با رقم و تاریخ : "کتبه الفقیر المذنب میر علی الکاتب" تهران کے کتابخانہ سلطنتی میں ہے۔ (۶)

مرحوم بیانی نے بوستان سعدی بقلم کتابت عالی، بارقم : ... میر

علی سنہ ۹۲۷ ” کرے ایسے نسخے کا پتہ بھی دیا ہے جو رامپور کے سرکاری کتب خانے میں موجود ہے (۱)۔

مرحوم بیانی نے میر علی ہروی کے تقریباً اکتیس دستخط نقل کیے ہیں جن میں صرف دو دستخطوں میں اس نے ”کاتب سلطانی“ کا خطاب استعمال کیا ہے۔ عارفی کی متنوی گوئی و چوگان کا جو خطی نسخہ لین گڑا کی پبلک لائبریری میں ہے اس کا ترقیمه اس طرح ہے : ”الفقیر الحقیر المذنب میر علی الكاتب السلطانی، غفر ذنبه و ستر عیوبہ بدارالسلطنة هرات حمیت عن الآفات“ (۸)۔

دوسرے دستخط سبحة الابرار جامی کے نسخہ مخزونہ ذخیرہ کورکیان نیوبارک پر ہیں اس طرح : ”میر علی الكاتب السلطانی“
مورخ ۹۳۵ھ۔ (۹)

میر علی ہروی نام کے دوسرے خطاط کے بارے میں مرحوم بیانی نے بتایا ہے کہ اس کا زمانہ میر علی ہروی مذکور سے تھوا بعد کا ہے اس کا خطاب بھی ”سلطانی“ تھا اور وہ هرات میں زندگی بسر کرتا تھا۔ لطف کی بات یہ ہے کہ اس کا اسلوب خط بھی میر علی ہروی کے اسلوب جیسا تھا۔ تاہم وہ خود بھی اپنی جگہ پر ایک زبردست کاتب تھا۔ اس کے جلی قلم سے بوستان سعدی کا ایک نسخہ تہران کے کتابخانہ سلطنتی میں موجود ہے۔ جس کا ترقیمه یوں ہے : ”در دارالسلطنة هرات صورت اتمام پذیرفت۔ الفقیر الحقیر میر علی السلطانی غفر ذنبه و ستر عیوبہ ۹۰۷ھ؟ (کذا)۔ پہلی نظر میں یہ تاریخ ۹۰۷ھ بڑی جاتی ہے اور اس صورت میں اس کا میر علی ہروی (اول الذکر) سے انتساب کوئی مشکل نہیں ہے لیکن واقعہ یہ ہے کہ یہ تاریخ ۹۰۷ھ کیونکہ با تصویر نسخہ میں تصویروں کے ساتھ مصور نے یہی تاریخ (۹۰۷) لکھی ہے (۱۰)۔

سلطین اور اکابر کی تحریریں :
 مناجات کئی نسخہ پر مندرجہ ذیل امراء اور سلطین کی
 یادداشتیں اور مہریں ہیں .

عبدالرحیم خانخان :

.. در تاریخ ۳۵ الهی موافق سنہ ۹۹۸ھ این کتاب داخل کتابخانہ
 شد ... دوست بندگان و خاکپای درویشان عبدالرحیم ابن محمد بیرم
 خان عفی عنہ ..
 جهانگیر پادشاہ : هزار زمان و انشہ باسم ک تعریف
 .. رسالت خواجه عبدالله انصاری (بہ) خط ملا میر علی سلطانی ،
 از پیشکش خان خانان بتاریخ ۲۳ جمادی الاولی ۱۰۲۲ھ . حرره
 جهانگیر ابن اکبر پادشاہ ..

شاه جهان :

.. بتاریخ بست و پنجم ماه بهمن الهی موافق پیسم شهر جعادی
 الثانيه ۱۰۳۷ھ کہ روز جلوس مبارک است داخل کتب خانہ این نیاز
 مند درگاہ شد . حرره شہاب الدین محمد شاه جهان ابن جهانگیر
 شاه (ابن) اکبر شاه ..

اس پر شاهجهان کی مہر بھی ثبت ہے جس پر یہ عبارت کندہ ہے :
 .. شہاب الدین محمد شاه جهان پادشاہ غازی صاحب قران ثانی ..

عالمگیر :

عالمگیر کی یہ مہر ثبت ہے :
 .. بنده ابو المظفر محی الدین محمد عالم گیر پادشاہ غازی ..
 دیگر یادداشتیں :
 الف - .. بتاریخ بست و نهم اردی بھشت ماه الهی ۱۱۸۹ داخل
 کتابخانہ احقر العباد میر کریم الدین خان شد ..

ب - „الله اکبر۔ بتاریخ هشتم دیماہ المھی سنہ ۲ عرض دیده شد“ .

ج - „الله اکبر۔ پانزدهم ماه اردیبیہشت سنہ احمد عرض دیده شد“ .
صد پنڈ لقمان کا نسخہ بھی کئی سلاطین اور امراء کی یادداشتون

سرے مزین ہے -

جهانگیر :

یہ کتاب جہانگیر کی پندرہویں سال جلوس (۱۰۲۹ھ) میں اس
کری کتب خانہ میں داخل ہوئی۔ جیسا کہ جہانگیر کی اس یادداشت
سرے ظاہر ہے :

„بتاریخ سوم محرم سنہ ۱۵ داخل کتب خانہ این نیاز مند درگاہ
المھی شد۔ حررہ جہانگیر ابن اکبر“ .

شاہ جہان :

کچھ عرصہ یہ کتاب شاہجہان کری زیر مطالعہ رہی اور اس کری
کتب خانے میں داخل ہوئی۔ اس وقت اس کتاب کی قیمت ایک ہزار
روپیہ شاہجہانی تھی۔ چنانچہ شاہجہان اس پر لکھتا ہے :
این پندنامہ لقمان حکیم وغیرہ کہ بخط خوب امیر علی (کذا)
است بتاریخ بیست و پنجم ماه آبان المھی سنہ ۳ جلوس مطابق سلیخ
ربيع الاول ۱۰۳۹ھ در دارالخلافہ اکبر آباد داخل کتب خانہ این نیاز
مند درگاہ شد۔ حررہ شہاب الدین محمد شاہجہان بادشاہ ابن
جهانگیر ابن اکبر بادشاہ غازی۔ قیمت ہزار روپیہ۔

ڈیڑھ سال تک یہ کتاب شاہجہان کری پاس رہی دوسرے سال
اس نے اپنی بیٹی جہان آرا بیگم کو ہدیہ میں دے دی۔ وہ لکھتا ہے :
„این پندنامہ را در ذی الحجہ ۱۰۳۰ھ موافق سنہ ۳ جلوس مبارکہ
بفرزند ارجمند سعادت مند برخوردار کامگار بجان برابر بلکہ از جان
بہتر جہان آرا بیگم ہدیہ نعمودم“ .

شاہجہان کی یہ عادت تھی کہ وہ ہر کتاب کی درجہ بندی اور کتب خانہ میں اس کا مقام خود معین کرتا تھا۔ چنانچہ اس نے اس کتاب کو،، خاصہ اول،، کا نسخہ ظاہر کیا ہے۔

جهان آرا یسگم :

مغلیہ کتب خانے میں مناجات اور صدپند کرے نسخے یکجا مجلد تھے۔ اس پر جہان آراء کی یہ یادداشت موجود ہے:

این چند سخن کہ خواجہ عبداللہ انصاری شیخ الاسلام وقت خود گفتہ است اگر هزار زبان داشتہ باشم کہ تعریف نمی توانم کرد۔ گوش را و جان و دل را عجب خبر می دهد اگر توفیق رفیق گردد۔ حرره جہان آرا مرید حضرت شیخ خواجہ معین الدین چشتی قدس سرہ،،

دیگر یادداشتیں :

اس نسخہ کے سرورق پر اور بھی کئی مشاہیر کے دستخط ہیں۔ سرورق پر ملا صالح اور عنایت خان کے دستخط ہیں۔ دربار اکبری کے ایک اہم رکن حکیم ہمام کی یہ تحریر موجود ہے:

.. پند نامہ لقمان حکیم و سخنان عبداللہ انصاری کہ بخط میر علی است از کتابخانہ حکیم ہمام است۔ سنہ ۲“ -

اس مخطوطہ سر بہت سی مہریں اور تحریریں مثابر کی کوشش بھی کی گئی ہے۔ مگر اس کے باوجود یہ اپنے خط اور مذکورہ یادداشتیں کے سبب ایک بیش قیمت نسخہ ہے۔

حوالى

- ۱- مهدی بیانی : احوال و آثار خوش نویسان ۱ (ستمیع نویسان) ص ۳۹۳ و ۵۱۶ - طبع درم تهران .

۲- ایضاً ص ۳۹۳

۳- ایضاً ص ۳۹۹

۴- ایضاً ص ۵۰۰

۵- ایضاً ص ۵۱۲

۶- ایضاً ص ۵۱۲

۷- ایضاً ص ۵۱۳

۸- ایضاً ص ۵۱۳


۹- ایضاً ص ۵۱۳

۱۰- ایضاً ص ۵۱۶

ارد بایه و دین پرخون دنیانه جانی سایش است
 دنیا جانی زمانی شلت اگر پست شوکم بید
 مت باش و اگر مت شوکم کوید پت باش
 آرزو دست پت نایم کوید بایفت شو اگر از خودت
 شوکم کوید بایفت باش مر کرامه اود
 جان پراید سرد خدمه او در زمان بیس
 و اپلام .

نست علی بدین شعر علی الحکیم
 پنهان فی او پنهان دیسته
 نعلی بیتی پنهان بجه .

این چند سیفون که خواجه عبد الله انصاری شیخ الاسلام
 کفته است را که نهار زبان داشته باشند که تعریف نمیتوانم
 کرد کوش را و جان پر دل را عجب خیر میده را که فوق رفیق کرد
 خواجه جهان آرا امیر حضرت شیخ معین الدین
 چشتی همیں تپرو



مناجات خواجه عبد الله انصاری کی نسخہ بر جهان آرایکم کی تحریر

عارف نواہی

کتابوں پر نقد و نظر

○ ایسی کتابوں پر تبصرہ کیا جاتا ہے جن کا تعلق فارسی زبان ، ادب اور تہذیب سے ہے۔

○ تبصرہ کئے لئے دو نسخے مہیا کیے جائیں -
۴۳ پاکستان میں فارسی ادب - جلد چہارم
سکھوں کے عہد میں (۱۱۸۵ - ۱۲۶۵ھ / ۱۸۳۹ - ۱۸۵۰ء)

ڈاکٹر ظہور الدین احمد

ادارة تحقیقات پاکستان ، دانشگاہ پنجاب ، لاہور ۔

ح + ۳۱۳ ص . ۱۹۸۵ء ، ۱۲۰ روپیہ قیمت بہت زیادہ ہے۔

محترم ڈاکٹر ظہور الدین احمد ، جامعہ پنجاب لاہور کے ان بزرگ اساتذہ میں سے ہیں جنہوں نے اپنا تشخص اور وقار اپنے عمدہ علمی کاموں کی بنیاد پر قائم کیا ہے۔ وہ گذشتہ کئی سالوں سے خاموشی کے ساتھ فارسی ادب کے مختلف موضوعات پر تحقیق و تصنیف میں مصروف ہیں۔ ان کے تصنیفی سلسلہ الذهب کی اہم کڑی ان کی لکھی ہونی تاریخ ادبیات ، پاکستان میں فارسی ادب ہے۔ جس کی اب تک چار جلدیں شائع ہو چکی ہیں۔ پہلی تین جلدیں مندرجہ ذیل ادوار سے متعلق ہیں :

جلد اول : ۳۰۰ تا ۱۰۰۰ھ

جلد دوم : عہد جہانگیر سے عہد اورنگ زیب تک (۱۰۱۳ - ۱۱۱۸ھ).

جلد سوم : از بہادر شاہ تا انقراض سلطنت مسلمانان (۱۱۱۹ -

۱۲۵۹)

رہنمائی

چوتھی جلد جو اس وقت پیش نظر ہے سکھہ عہد کر ادبیات پر
محیط ہے۔ مصنف نے لاہور، کشمیر، ملتان، بہاولپور اور پشاور کو
(سیاسی) مرکز قرار دے کر ان علاقوں کے مؤرخین، شعراء، عرفاء،
علماء، انشا پردازوں، تذکرہ نگاروں اور دیگر مصنفوں کا ذکر کیا ہے۔
آخر میں „اضافات“ کے عنوان سے ایسے گیارہ مصنفوں کے احوال اور
دیگر چھے کتابوں کا ذکر ہے جو پچھلی جلدیوں میں مذکور ہونا تھا مگر
ان کے بارے میں معلومات بعد میں دستیاب ہوئیں۔

پاکستان میں فارسی ادب کی تاریخ پر ہونے والا یہ پہلا مربوط
اور جامع کام ہے اور چونکہ ایک شخص واحد کا کارنامہ ہے، اس کی
جس قدر پذیرائی اور قدردانی کی جائز، کم ہے۔ کتاب کی ممتاز
خصوصیت یہ ہے کہ فاضل مصنف نے زیادہ سے زیادہ متون کا براہ
راست مطالعہ کیا ہے، اس طرح نہ صرف زیر بحث کتابوں کا مفصل
تعارف سامنے آ گیا ہے اور ان کے حسن و قبح کا پتہ چل گیا ہے بلکہ
ان غلطیوں کا بھی کسی حد تک احتمال کم ہو گیا ہے جو ثانوی مآخذ
سرے نقل در نقل میں پیش آتی ہیں۔ راقم السطور کی جب بھی فاضل
مصنف سے ملاقات ہوئی پنجاب یونیورسٹی لاہور کے کتب خانہ کے
اس گوشے میں ہوئی جو اساتذہ کے مطالعہ و تحقیق کے لئے مخصوص
ہے اور میں نے انہیں وہاں قلمی نسخوں کے مطالعہ میں اس قدر
منہمک پایا کہ اپنی موجودگی کا احساس خود دلانا پڑا۔

مصنف نے اپنے پیش لفظ میں پانچویں جلد کی بھی بشارت دی
ہے۔ غالباً اس جلد یا چھٹی جلد کے ساتھ پاکستان میں فارسی ادب
کی تاریخ کی تدوین کا یہ سلسلہ پایہ تکمیل تک پہنچ جائز گا اور
مستقبل میں اس موضوع پر کام کرنے والے محققین اور مؤرخین کے لیے

یہ ایک راہ نما کتاب تیار ہو جائے گی ۔

جیسا کہ ہم اپر لکھ آئی ہیں یہ ایک شخص واحد کا کارنامہ ہے اس لیے اس نوعیت کر پہلی ہونے کا کم کی تکمیل ، توضیح اور تصحیح کرنے کی گنجائش باقی رہتی ہے ۔ ذیل کی چند سطور نہایت احترام کے ساتھ اسی گنجائش کر پیش نظر لکھی جا رہی ہیں ۔

ص ۱۱ : ڈاکٹر صاحب نے میرے تدوین کی تصحیح کی تھی (۱) ۔
ص ۱۲ : مرآۃ الغفوریہ (۲) مارچ ۱۸۳۵ء میں احمد یار کا مصنف کا نام نور اللہ تھا۔

مرآۃ الغفوریہ ص ۱۲ : مرآۃ الغفوریہ ” کے مصنف کا نام ” نور اللہ ” لکھا ہے یہ مصنف کے والد کا نام ہے ۔ اس کتاب کا مصنف ” امام بخش ” تھا، احمد یار (۱) میں احمد یار کا مقام ولادت قصہ سوہدرہ ضلع وزیر آباد لکھا ہے ۔ اولاً وزیر آباد ضلع نہیں بلکہ ضلع گوجرانوالہ کی تحصیل ہے ۔ ثانیاً احمد یار، قلعہ اسلام گڑھ میں پیدا ہوا تھا (۱) ۔

فقیر عزیز الدین

ص ۱۱۸ : فقیر موصوف کی تاریخ وفات ۳ دسمبر ۱۸۳۵ء لکھی ہے ۔ فقیر خاندان کی خاندانی قلمی بیاض میں ، جو کہ زیادہ صحیح اور معتبر ہے ، ان کی تاریخ وفات ۲ ذی الحجه ۱۲۶۲ھ مطابق ۱۸۳۶ء درج ہے (۲) ۔
ص ۱۲۰ : فقیر موصوف کے روزنامچے سے ان کا جو شجرہ

۱ - ڈاکٹر شہباز ملک : مولوی احمد یار فکر تحریک فن ، ۱۹۸۳ء لاہور ، ص ۳۲ ۔

۲ - شریف احمد شرافت : شریف التواریخ ، ۱۹۸۳ء ، ساہن یال ضلع گجرات ، جلد سوم حصہ ششم

طريقت لکھا گیا ہے :
 اولاً: اس میں بعض ناموں کی املاء اصلاح طلب ہے۔ ابوالفرح
 طرطوسی کو بوالفرح طرطوسی؛ ابوالحسن هکاری کو ابوالحسن
 شادی اور شاہ میر کو شاہ مہراں لکھ دیا گیا ہے۔
 ثانیاً : ناموں کی موجودہ ترتیب صحیح نہیں ہے۔
 ثالثاً : کچھ نام چھوٹ گئے ہیں۔
 رابعاً : شیخ پیر محمد ملقب بہ سچیار کو دو الگ الگ شخصیات
 (سچیار ، پیر محمد) ظاہر کیا گیا ہے۔
 فقیر عزیز الدین کے شیخ عبدالقادر جیلانی تک شجرة طریقت
 کی صحیح ترتیب اس طرح ہے :

فقیر عزیز الدین - فقیر غلام محی الدین - شاہ امانت - ، عبدالغفور -
 حافظ محمد قائم - پیر محمد سچیار - نوشہ گنج بخش - شاہ سلیمان
 - شاہ معروف - سید مبارک - سید محمد غوث - سید شمس الدین -
 شاہ میر - سید علی - سید مسعود - سید احمد - سید صفی الدین -
 سید عبدالوهاب - شیخ عبدالقادر جیلانی .

ہمارے مذکورہ بالا ناموں کے علاوہ ڈاکٹر صاحب نے جو نام نقل
 کیے ہیں وہ زائد ہیں یا شیخ عبدالقادر جیلانی کے مشائخ کے ہیں۔
 جیسے ابوالحسن هکاری اور ابوالفرح طرطوسی وغیرہ۔

ص ۱۲۰ : ڈاکٹر صاحب نے عزیز الدین کو ان کے والد (غلام
 محی الدین) کا جانشین اور مریدوں کا رہنما لکھا ہے۔ یہ شک وہ
 مریدوں کی راہ نمائی کرتے ہوں کہ لیکن فقیر غلام محی الدین کے
 تیسرا بیٹھ فقیر نور الدین اپنے والد کے رسمی سجادہ نشین تھے (۳)۔

ص ۱۲۳ : ڈاکٹر صاحب فقیر موصوف کر کلام کا مفصل تعارف اس لیے پیش نہیں کر سکر کہ بقول ان کے .. ان کا دیوان موجود نہیں .. میں نے فقیر موصوف کے فارسی اشعار کے دیوان کے دو قلمی نسخے قومی عجائب گھر کراچی میں دیکھئے ہیں (۳) .

فقیر نور الدین منور

ص ۱۲۴ : ڈاکٹر صاحب نے فقیر موصوف کی تاریخ ولادت (۲۱ شعبان ۱۲۰۵ھ۔ ۲۵ اپریل ۱۸۹۱ء) اور تاریخ وفات (۲ جمادی الآخر ۱۲۶۸ھ۔ ۲۶ مارچ ۱۸۵۲ء) درج نہیں کی ہے (۵) .

فقیر امام الدین :

ص ۱۳۸ : زیر بحث کتاب میں فقیر موصوف کی تاریخ ۱۸۲۲ء تحریر ہونی ہے۔ مگر ان کی صحیح تاریخ وفات ۲۶ ذی الحجه ۱۲۶۳ھ مطابق ۵ دسمبر ۱۸۴۷ء ہے۔ (۶)

محمد ہاشم شاہ

ص ۱۳۳ : „فقر نامہ“ کو فارسی نظر کی کتاب بتایا گیا ہے مگر یہ پنجابی نظم کی کتاب ہے (۷) .

„چھار بھار“ کے بارے میں بی حد اختصار سے لکھا گیا ہے۔ غالباً ڈاکٹر صاحب کو یہ کتاب دستیاب نہیں ہو سکی تھی۔ „چھار بھار“ ہاشم شاہ کی فارسی تصانیف میں سر فہرست ہے اور دوبار شائع ہو چکی ہے۔ پہلی دفعہ ۱۹۴۹ء میں باہتمام سید

۳ - عارف نواحی : فہرست نسخہ های خطی فارسی موزہ ملی پاکستان ۱۹۸۳ء ، اسلام آباد ص

۲۴۰

۵ - شریف التواریخ ۲/۶ : ۲۵۱ تا ۲۶۸ ، جہاں فقیر نور الدین کے مفصل حالات موجود ہیں۔

۶ - ایضاً ص ۲۹

۷ - ایضاً ص ۲۱۰

ابوالکمال برق مرحوم، ڈوگہ ضلع گجرات سے اور دوسری دفعہ ۱۹۸۳ء میں بااهتمام راقم العروف، ساہن پال ضلع گجرات سے - دوسری اشاعت کے پیشگفتار میں اس کتاب کی اہمیت اور افادیت پر کسی قدر تفصیل کر ساتھ گفتگو کی گئی ہے۔
ہاشم شاہ کی ایک اور فارسی کتاب، "مفتاح العلاج" بھی دستیاب ہے جس کا ذکر ڈاکٹر صاحب نے نہیں فرمایا۔

ص ۱۲۵ : ڈاکٹر صاحب نے ہاشم شاہ کے مجموعہ کلام، "فیضان قادریہ" کے حوالے سے جو اشعار نقل کیے ہیں وہ دراصل ہاشم شاہ کی ایک دوسری تألیف، "چهار بھار" میں شامل ہیں۔ مثلاً بگو احوال... (چهار بھار، طبع دوم ص ۳)، چون شمع نور... (ایضاً ص ۵)، جنبش کہ داد... (ایضاً ص ۵)، خستہ و سرگشته (ایضاً ص ۹)، بجان بخشی کہ (ایضاً ص ۷)۔

فیضان قادریہ کے حوالے سے زیر تبصرہ کتاب میں مذکور اشعار میں سے بعض صحیح طور پر نقل نہیں ہوتے۔ صحیح صورت اس طرح ہے۔

۱ - بگو احوال درد دو جہان را
۲ - نوای شعلہ اش ز افلک برشد
۳ - زلیخا وار در راہش نشیند
محمد اشرف منچری
ص ۱۲۸ : کتاب، "مناقب نوشahi" کو، "مناقب شاهی" لکھا گیا ہے۔

ص ۱۲۹ : مشتوی، "کنز الرحمت" کا سال تصنیف ۱۲۳۰ھ لکھا ہے، صحیح ۱۲۲۰ھ = "طغرائی" ہے۔

سید شرافت مرحوم نے اشرف کا متفرق فارسی کلام بھی جمع کر

دیا ہے جو ان کئے کتب خارج میں موجود ہے۔ ڈاکٹر صاحب اسے بھی دیکھ لیتے تو یہ نہ لکھتے کہ (صرف „کنز الرحمت“ سے) اشرف کا شعری مرتبہ معین نہیں کیا جا سکتا۔

ڈاکٹر صاحب نے اشرف منچری کی دو دیگر فارسی منظوم تصانیف ..، مصباح الطب .. اور .. یوسف و زلیخا .. کا نام نہیں لیا۔ اول الذکر مثنوی کا ایک قلمی نسخہ ذخیرہ آذر جامعہ پنجاب لاہور اور دوسرا نسخہ فقیر خانہ لاہور میں موجود ہے۔

عمر :

ص ۱۵۵ : عمر کی مثنوی .. عشق الصالحین .. کا ذکر ہے۔ مثنوی کا صحیح نام .. عشق السالکین .. ہے جیسا کہ اس شعر سے ظاہر ہوتا ہے۔

گوش کن از گوش دل گربشنوی
ہست .. عشق السالکین .. این مثنوی
اس مثنوی کئے سال تصنیف ۱۱۹۳ھ کی سند میں ڈاکٹر صاحب نے
جو شعر پیش کیا ہے اس میں نقطہ کم معمولی سہو نہ بہت بڑا فرق
ڈال دیا ہے۔ غین کو عین لکھ دیا گیا ہے۔ صحیح مصرعہ یون ہے:

سال هجرت غین و قاف و صاد و جیم

۱۱۹۳ = ۳ + ج + ۹۰ + ص + ۱۰۰ + ق + ۱۰۰ + غ

اسی صفحہ پر ڈاکٹر صاحب نے جو مصرعہ نامکمل لکھا ہے وہ مکمل صورت میں یون ہے:

باز آمد سال هجرت در شمار (۸)

چودھری شہباز

ص ۱۵۶ : ان کر بارے میں مصنف نے مندرجہ ذیل بنیادی باتوں
کا ذکر نہیں کیا :

وہ ۱۲۱۱ھ میں پیدا ہوئے - ان کا نام شہباز خان تھا اور قوم
ملہی سے تعلق رکھتے تھے - موضع بدوملہی ضلع سیالکوٹ میں
سکونت پذیر تھے۔ مولانا محمد جمیل جلالوی سے بیعت طریقت
رکھتے تھے - فارسی مثنوی „عجیب منظر“ (تصنیف ۱۲۵ھ) بھی
ان ہی کی تصنیف ہے جس کا ایک مخطوطہ بشمارہ ۱۰۴۱ ذخیرہ
شیرانی جامعہ پنجاب لاہور میں موجود ہے ۹۱۔

ص ۱۵۷ : ڈاکٹر صاحب نے لکھا ہے کہ شہباز جلال آباد میں
ٹھہرا ہوا تھا اور ایک بزرگ پیر الدین نے شہباز سے قصہ سسی پنوں
کو مکمل کرنے کی فرمائش کی۔

مذکورہ بزرگ کا صحیح نام قاضی پیر بخش ہے اور وہ جلال پور
میں رہتے تھے - شہباز نے غالباً ضرورت شعری کر پیش نظر اپنی نظم
میں جلال پور کو جلال آباد اور پیر بخش کو پیر الدین لکھا ہے ۱۰۱۔
اسی صفحہ پر مثنوی .. وقایع پنوں سے جو اشعار نقل کیے گئے
ہیں وہ بھی نظر ثانی کر محتاج ہیں - صحیح مصرع یوں ہیں -

۱ - کو کرد طبایع را شایع ز اسرار صنایع بوقلمون

۲ - چون در غم پار نزار بدم خونخوار دل افگار و حیران

تاریخ گزار این نظم شدم .. غم یار، بفهم اسرار نہان

ڈاکٹر صاحب نے اسی صفحہ (۱۵۷) پر مثنوی .. وقایع پنوں سے

اس کا سبب تأثیف بیان کرنے کی غرض سے جو ایک شعر نقل کیا ہے

۹ - ایضاً ۲/۲۰: ۱۲۸ - ۱۲۰

۱۰ - ایضاً ۱۲۹: ۱۰

وہ دراصل چار مصروع تھی، معلوم نہیں ایک بیت کیسے بن گیا۔ ڈاکٹر صاحب کا منقولہ شعر یہ ہے :

لیکن زین پیش حسین ولی کرداست بیان احوال سسی
ز آغاز نکرد شروع او را من جمیت تمام نمودن عازم گشتم
صف نظر آ رہا ہے کہ دوسرا مصروع وزن سر خارج ہے۔ دراصل یہ
مصروع اس طرح ہیں :

لیکن زین پیش حسین ولی کرداست بیان احوال سسی
ارضاہ اللہ عفاه اللہ جزاہ اللہ عن ملتمنسی
ز آغاز نکرد شروع او را انجام نمود بفهم رسی
من جمیت تمام نمودن آن عازم گشتم از بو الموسی (۱۱)
فقیر غلام محی الدین

ص ۱۸۵: ڈاکٹر صاحب نے ان کی تاریخ وفات ۱۲۳۰ھ لکھی ہے
صحیح تاریخ ۱۲ جمادی الاولی ۱۲۳۱ھ ہے (۱۲) یہی تاریخ ان کے
کتبہ پر بھی کتدہ ہے۔

ص ۱۸۶: فاضل مصنف نے فقیر موصوف کا نوشہ گنج بخش تک
جو شجرہ طریقت درج کیا ہے اس میں امانت شاہ اور حافظ
قائم الدین کر درمیان شاہ عبدالغفور کا نام چھوٹ گیا ہے۔

اسی صفحہ پر ڈاکٹر صاحب فقیر غلام محی الدین کا حضرت
ایوب انصاری تک جو نسب نامہ لکھا ہے اس میں صرف بارہ درمیانی
واسطے دکھائی ہیں۔ علم الاتساب کی رو سے یہ کس طرح ممکن ہے
؟ اس پر دوبارہ تحقیق کی ضرورت ہے (۱۳)۔

۱۱ - شہباز خان ملہی: وقایع پنو، مطبوعہ فیض عام، لاہور، ۱۹۲۳ء، ص ۶۔

۱۲ - شریف التواریخ ۹۵: ۵ / ۲

۱۳ - اس سلسلے میں بعض تحقیقات کی لمحہ ملاحظہ ہو: شریف التواریخ ۹۵: ۵ / ۲۔

پیر کمال لاہوری

ص ۲۳۱ : مثنوی „ تحايف قدسيه ” کر مطلع کا پہلا مصرعہ
اس طرح درست ہے :

بحمد الله كز ارض قلب بيدار

امام بخش بن نور الله

ص ۲۳۲ : ڈاکٹر صاحب نے کتاب „ مرآۃ الغفوریہ ” کی سترہ
فصل میں سے بھلی آئھہ فصول کی فہرست اصل کر مطابق نقل کی
ہے - بہتر تو یہ تھا کہ باقی فصول کی فہرست بھی کتاب کر اصل
الفاظ کر مطابق نقل کر دی جاتی . منقولہ آئھہ فصول کی فہرست
کر دو عنوانات صحیح نہیں ہیں - تیسرا فصل در عشق و تصورات
ہے نہ کہ عشق و تصوف . ساتویں فصل در معونت و استدرج ہے نہ
کہ ... مؤنث و استدرج .

ص ۲۳۳ : ڈاکٹر صاحب نے لکھا ہے کہ موضوع سے متعلق
معلومات جمع کرنے کر لیے „ مرآۃ الغفوریہ ” کر مصنف نے دس
اشخاص سے رجوع کیا . اس سے یہ شک گذرتا ہے کہ „ مرآۃ
الغفوریہ ” کا مصنف ان لوگوں سے براہ راست ملا تھا اور معلومات
حاصل کی تھیں . مگر ایسا نہیں ہے ، ڈاکٹر صاحب نے جن دس
اشخاص کر نام درج کئے ہیں ان میں سے پہلے آئھہ اشخاص رسالہ
میرزا احمد بیگ (تصنیف ۱۱۰ھ) کر راویوں میں شامل ہیں - اور
„ مرآۃ الغفوریہ ” کی یہ تمام معلومات اسی رسالے سے منقول ہیں . یہ
سب لوگ „ مرآۃ الغفوریہ ” کی تصنیف (۱۱۹۰ھ) سے پہلے وفات
پا چکر تھے .

قاضی رضی الدین کنجاہی

ص ۳۵۳ - ۳۵۵ : ان کی غزل کر بعض اشعار درست طور پر

نقل نہیں ہوئے ہیں۔ ان کی نقل شدہ ایک غزل کے مطلع کا دوسرا
مصرعہ اس طرح ہونا چاہیے :

برگردہ ابر و قربان آن جو
چوتھا شعر اس طرح پڑھا جائے تو درست ہے :
آہ از دو جانب نشیند برم
آن عقرب زلف و آن چشم جابو

عبدالرحمان خلدي

ص ۳۸۱ : ڈاکٹر صاحب نے لکھا ہے کہ خلدي ، .. خلدي نامہ ..
اور .. محمود نامہ .. کے بھی مصنف ہیں .. محمود نامہ .. محمود
لاہوری کی تصنیف ہے .. خلدي نامہ .. اس کے تبع میں لکھا گیا ہے
... خلدي نامہ .. کا ایک نسخہ نیشنل میوزیم کراچی (شمارہ ۵۶)
۱۹۵۸ میں موجود ہے . اس کا مطلع اس طرح ہے :
ای غیرت عذار تو خون کرده لالہ را
وی خیر کرده چشم تو مشکین غزالہ را

مزید مواد

ڈاکٹر صاحب کو سکھے عہد سے متعلق جو مواد آسانی کے ساتھ
دستیاب تھا وہ انہوں نے زیر نظر جلد میں یکجا کر دیا ہے۔ مزید بہت
کچھ اس جلد میں داخل ہو سکتا ہے . ہم صرف چند نام لیں گے تاکہ
استدرائی کے طور پر اگلی جلد میں شامل کیا جا سکے ..

۱ - احمد بخش یکدل چشتی لاہوری (۱۲۱۲ - ۱۲۸۲ھ) .

دیکھیے : گوہر نوشانی : احوال و آثار فخر الشعرا یکدل چشتی ،
دانش شمارہ ۲ ص ۱۱ - ۵۳ ، احمد بخش یکدل لاہوری کے علمی
آثار ، کتاب شناسی شمارہ ۱ ص ۹۹ - ۱۱۳ .

۲ - شیخ احمد کشمیری (م ۱۲۸۸ھ) . دیکھیے : فہرست

نسخہ های خطی فارسی موزہ ملی پاکستان کراچی، ص ۲۱ - ۲۲ - ۲۲۲
وہاں ان کی تین فارسی کتابوں کا ذکر ہے۔

۳ - اوحدی پنجابی ، خواجہ محمد غلام فخر الدین (۱۲۳۳ - ۱۲۸۸ھ) . دیکھئی : فہرست ... موزہ ص ۲۷۷ . ان کا فارسی دیوان طبع ہو چکا ہے۔

۴ - بدر الدین لاہوری (زندہ در ۱۲۳۷ھ) . . . انشای منظومہ „ اور „ قصہ چہار درویش ” ان کی تصانیف میں شامل ہیں - دیکھئی : فہرست . . . موزہ ص ۳۸۳ .

۵ - خادمی ، حافظ نظام الدین . ڈاکٹر صاحب نے ان کی تین کتابوں (انشای خادمی ، بہار نامہ اور فرنگ بہار دانش) کا ذکر فرمایا ہے - خادمی نے مزید فارسی کتب بھی یادگار چھوڑی ہیں . انہوں نے انشا نویسی میں چار کتابیں لکھیں .

الف - انشای خادمی - مرتبہ ۱۲۶۶ھ . اسی کا ذکر ڈاکٹر صاحب کر ہاں ہوا ہے۔

ب - انشای خادمی - دوسرا نسخہ . جو انہوں نے اپنے بیٹے غلام محمد اور دیگر طلبہ کاہن سنگھ ، ارجمند اس اور جوگی داس کی فرمانش پر مرتب کیا . اس کے دیباچے میں خادمی نے لکھا ہے کہ وہ اس سے پہلے مندرجہ ذیل کتب تصنیف کر چکرے ہیں :
گلزار فقه ، مثنوی گل شکر ، شرح یوسف و زلیخا ، شرح درود مستغاث ، تجهیز ، مطلع خادمی ، یوسف نامہ ، وام حق ، مہدی نامہ ، انشای خادمی ، بہار نامہ .

ج - انشای خجستہ - یہ انہوں نے ۵۵ سال کی عمر میں لکھی . اس میں مصنف کر رسمی اور غیر رسمی خطوط ہیں .

د - رقعات خادمی - انشای خادمی کے بعد مرتب ہوئی . اس

میں مصنف کری رسمی خطوط ہیں۔
میں نے مذکورہ بالا چاروں منشات کری مخطوطہ قومی عجائب گھر
کراچی میں دیکھئے ہیں۔

۶ - داؤد بن خدا یار عباسی سندهی۔ ڈاکٹر صاحب نے اس
مصنف کی ایک کتاب، "جوارحنامہ امامیہ...." کا تعارف اپنی تاریخ
کی تیسرا جلد ص ۳۱ - ۸۳۰ میں درج کیا ہے اور، "مقالات الشعرا"
اور، "جوارحنامہ" کری ڈی - سی - فلٹ ایڈیشن کا حوالہ دیا ہے۔
مگر مذکورہ دونوں حوالوں میں داؤد عباسی کری بارے میں جو متضاد
اور متناقض معلومات ہیں ان پر جروح کرکے یہ نہیں لکھا کہ کونسر
مأخذ کی اطلاعات درست ہیں۔

فلٹ نے اس کتاب کو طغان تیمور خان فرمانروائی خراسان (۳۷)
۵۳ کم) کری عہد کی تصنیف قرار دیا ہے جو صحیح نہیں۔
"مقالات الشعرا" میں لکھا ہے کہ مصنف کا والد خدایار خان
۱۱۳۱ھ میں فوت ہوا تھا۔ (ص ۲۱۲) مآثر الامراء (۱: ۱۴ - ۸۱۲،
اردو ترجمہ) سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ داؤد عباسی بارہویں
صدی ہجری کا مصنف ہے۔ داؤد عباسی کی ایک اور کتاب، "طب
داودی" بھی موجود ہے (فہرست... موزہ ص ۱۰۲)۔

۷ - قل احمد منچری (م ۱۲۵۱ھ)۔ فارسی میں شعر کہتے تھے.
ان کا کلام موجود ہے۔ دیکھئیں: شریف التواریخ جلد سوم حصہ
چہارم ص ۱۱۶۔

۸ - کرم علی شایق بن مولوی شیخ محمد۔ شایق کا آبائی وطن
چیمہ چٹہ ضلع گوجرانوالہ تھا اس کری بعد ضلع گوجرانوالہ اور ملتان
کری مختلف دیہات میں تدریسی اور علمی خدمات انجام دیتے رہے۔
۱۱۶۵ھ میں فارسی مثنوی، "امیر نامہ" لکھی جس کا ایک قلمی

نسخہ نیشنل میوزیم کراچی میں میری نظر سے گذرا ہے۔ اس کے دیباچہ میں شاعر نے اپنے بارے میں خاطر خواہ معلومات بھم پہنچانی ہیں۔ نیز دیکھئے: فہرست ... موزہ ص ۵۳۵۔

۹ - لچھمی نراین کنجاہی۔ ان کی منشات ۱۲۰۵ھ میں مرتب ہوئی۔ اس کے دیباچہ میں لچھمی نراین کے حالات زندگی مذکور ہیں۔ یہ انشا چھپ چکی ہے۔

۱۰ - محمد حسین ساکن گاجر گولہ ضلع گوجرانوالہ۔ متنوی وقایع پنو جسر شہباز خان نے مکمل کیا تھا، اسی محمد حسین نے لکھنا شروع کی تھی۔ ڈاکٹر ظہور الدین احمد صاحب نے شہباز کا ذکر تو کیا ہے لیکن محمد حسین کے حالات زندگی نہیں لکھئے۔ اس کے حالات کے لیے دیکھئے: شریف التواریخ جلد سوم۔ حصہ چہارم ص ۱۳۱۔

۱۱ - محمد بن غلام محمد گلہوی۔ میرے خیال میں فارسی کتب کے شارح کی حیثیت سے جو خدمات مولانا محمد گلہوی نے انجام دی ہیں تیرہویں صدی ہجری میں اس کی نظری نہیں ملتی۔ ان کی بوستان، سکندر نامہ، یوسف و زلیخا وغیرہ پر شروع متداول ہیں۔

۱۲ - مظفر منصری۔ نصاب قادر باری کے مصنف ہیں، جسر انہوں نے ۱۲۰۳ھ میں لکھا۔ دیکھئے: فہرست موزہ ... ص ۳۳۹۔ حالیہ چند برسوں میں پاکستان میں حوالہ کی متعدد کتابیں شائع ہوئی ہیں (۱۲)۔ جن کے ذریعہ پاکستان میں فارسی ادب سے متعلق

۱۳ - ہم یہاں صرف مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان اسلام آباد کی شائع کردہ کتب مراجع کی طرف اشارہ کریں گے، جن کی مدد کے بغیر اب پاکستان میں فارسی ادب کی تاریخ کی تدوین کی غرض سے کوئی مثبت قدم نہیں اٹھایا جا سکتا۔

کئی پوشیده گوشی سامن آگئر هیں . اور ادب کی منقطع کڑیوں کے
فاصلے قریب تر ہو گئے ہیں - اب ضرورت اس امر کی ہے کہ مذکورہ
ماخذ کی راهنمائی میں فارسی ادب کے محققین کا گروہ محترم ڈاکٹر
ظہور الدین احمد کے کام بلکہ مشن کو آگئے بڑھانے اور اس علاقے کے
علمائے ادب کی انسانی تہذیب کے لیے خدمات کو روشن تر کرے .

۳۳ مناهج الطالبین و مسائل الصادقین

تألیف : نجم الدین محمود بن سعد الله اصفهانی (سید محمد
بخاری) بین سالهای ۶۹۵ - ۷۲۸ ه . ق .

باہتمام : نجیب مایل هروی
انتشارات مولی - تهران . ۱۴۰۵ ه . ق : ۱۳۶۴ ه . ش .

۴۴۸ ص ، ۱۸۵۰ ریال

در گذشته آثار تاریخی بایک دید خاصی نوشته می شد و
مؤرخین کمتر به نقد اوضاع عصری و اجتماعی خود می پرداختند .
این خلاء را می توان امروز با کمک مطالعه آثار اخلاقی و عرفانی و
کلامی نویسندها آزاد قرون گذشته پُر کرد .

„ مناهج ... ” از همین گونه کتب بشمار می آید . در عین حال
که کتابیست در مسائل اخلاقی ، اما در آن نکته های عصری در
زمینه آداب صوفیہ و پیشندهای آنان و رفتار مردم پاره ای نواحی که
باعقاید اسلامی کافه مسلمانان تعارض داشته ، نیز بچشم می خورد .

مصحح کتاب - آقای نجیب مایل هروی - معتقد است که آثار
صوفیہ در نیمة دوم سده هفتم و نیمة اول قرن هشتم پخته ترین و
سخته ترین یافته های عرفانی در آداب عملی صوفیہ و در زمینه
یافته های خدا شناسی و جهان شناسی می باشد . و بهمین خاطر

چندین سال است که ایشان همت خود را به ویرایش کتابهای نظری و عرفانی این دو قرن گماشته اند و موفق شده اند تاکنون هشت مجلد کتاب را - نخست بار - به معرض عام قرار دهند . ومن الله التوفيق .

۳۳ سیری در گلریز نخشی

دکتر ساجد الله تفہیمی

بخش فارسی دانشگاه کراچی - کراچی

۱۹۸۵ م ۳۹ ص . بہا ذکر شدہ .

„گلریز“ یک داستان خیالی و عشقی است که ضیاء الدین نخشی (م ۷۵۱ ه) آن را نگاشته است . پیش از این در ۱۹۱۲ م این داستان بتصحیح محمد کاظم شیرازی و ر . ف . آزو از طرف انجمن آسیائی بنگال - کلکته منتشر شده بود اما مصححان مزبور به نقد آن کتاب نپرداخته بودند . اینک دکتر تفہیمی از جهات مختلف (احوال نویسنده ، معرفتی گلریز ، نسخه های خطی و چاپی و ارزش معنوی و ادبی گلریز) این کتاب را مورد بررسی قرار داده و توفیق یافته که سیمای کلی این داستان و این کتاب را ترسیم کند .

۳۴ مشنونی معروف به گل و بلبل

اثر : شیخ شرف الدین ابو علی قلندر بانی پتی (م ۲۴۰ ه)

بتصحیح وتحشیه و مقدمه دکتر ساجد الله تفہیمی .

مقبول اکیدمی ، ادبی مارکیت ، چوک انارکلی ، لاہور .

۱۹۷۹ م ۱۶۰ ص ۱۸ رویی .

مثنوی عرفانی بو علی قلندر که به „گل و بلبل“ شهرت دارد پیش از این چندین بار در هند و پاکستان بچاپ رسیده است و نسخه های خطی نیز فراوان دارد. مصحح از میان آنها شش نسخه خطی و یک نسخه چاپی (lahor، ۱۳۴۴ ه) را مورد استفاده خود قرار داده و یک متن منقح از این مثنوی را تهییه و عرضه کرده است و برآن مقدمه بسیار محققانه و تعلیقات ارزنده و فرهنگ مصطلحات عرفانی و فهارس اعلام افزوده است.

۵۳ سوز و ساز

محمد سرفراز ظفر

ادارة معارف نوشاهیه، ساهن پال، ضلع گجرات.

۱۹۸۵ م، ۸۷ ص، ۳۰ رویه

آقای ظفر از جوانانی است که در این سن و سال به شعر و ادب فارسی دلبستگی پیدا کرده و در سال ۱۹۸۵ م موفق شده است که شش کتاب خود را بچاپ رساند که از میان آنان دو اثر در همین صفحات معرفی شده است.

„سوزوساز“، مجموعه منظومه ها و چکامه های اوست که بیشتر به سبک قدیم اما با بکاربرد الفاظ جدید سروده شده است و در اشعار او احساسات جوانانه به نیکی پیدا است:

تاتوانی در جهان با زور زی
مرگ بهتر از حیات عاجزی

زیر پا بودن چو مور ناتوان

هست کار و شیوه دل مردگان

زیر دستی جرم هست و صدگناه
 زیرستان را نباشد کس پناه
 دست و پابسته چرا؟ آزاد پاش
 صخره ظلم و ستم کن پاش پاش
 باب آزادی برویت باز کن
 راه پیروزی ز نو آغاز کن
 ظاهراً در غلط گیری این کتاب قبل از چاپ آن دقت لازم بعمل
 نیامده است . امیدواریم در موقع تجدید چاپ این نکته مورد نظر
 سراینده قرار گیرد -

۴۳ دستور مختصر زبان دری

محمد سرفراز ظفر

مؤسسه ملی زبانهای نوین، اسلام آباد .

سال چاپ ذکر نشده (۱۹۸۵ م)، ۱۰۳ ص، بها ذکر نشده .

مؤسسه ملی زبانهای نوین، زبانهای رایج در دنیا را تدریس می کند و برای رفع نیاز دانشجویان، کتابها چاپ می کند . کتاب حاضر نیز برای دانش آموزان زبان فارسی (دری) تهیه و نشر شده است . در بعضی موارد نظرات مؤلف قابل تجدید نظر می باشد، امیدواریم اشتباهات فراوانی که سر تاسر کتاب بچشم میخورد در موقع تجدید چاپ رفع گردد .

۴۴ رستاخیز

دکتر عبدالرشید تسم

اداره ادب - لاھور - ۱۹۸۰ م، ۱۰۰ ص، ۱۰ رویه

مجموعه غزلیات و منظومات دکتر تبسی است . اینک نمونه بعضی اشعار :

دل بی نیاز دارم که غم جهان ندارد
به کسی علاقه مندی ته آسمان ندارد

مرا خانه ای فشارد بتراز فشار گوری
اگر آن درون خویشی گهی میهمان ندارد

★ ★ ★

بجهان اهل ثروت دل بی نیاز دارم
که متاع عشق و مستی همه برگ و ساز دارم

نه بشاه عرضه دارم نه گدای را براندم
نه بمن نشیب و پستی نه به دل فراز دارم

زجهان اگر به پرسی بد و حرف قصه گویم
چو تو ذکر یار آری سخنی دراز دارم

۴۴ هفت فلک

دکتر عبدالرشید تبسی

ادارة ادب (الtribjor فاؤنڈیشن) ۱۰۳ - سی مادل تاؤن لاہور .

۱۹۸۲ء، ۱۴۴ ص، ۱۵ روپیہ .

مجموعه ۹ داستان کوتاه است که به سبک فارسی پاکستانی
نوشته شده است .

۴۵ شعر انقلاب بعد از انقلاب اسلامی ایران

ترتیب و مقدمه و نشر از : دکتر حفظ الدین احمد کرمانی - گروه

فارسی دانشگاه هندوی ، بنارس - هند .

۱۹۸۵م، ۲۰۰ صفحه ، ۵۰ روپیہ .

چنانکه از نام کتاب پیدا است، «شعر انقلاب»، کتابیست دارای منظومات انقلابی که پس از انقلاب اسلامی ایران توسط شاعران آن سرزمین سروده شده و در نامه های روز و هفته و ماه و سال بچاپ رسیده و مؤلف گلچینی کرده است.

درین کتاب مقدمه ای بچشم میخورد بسیار طولانی و مبسوط که پیرامون شعر و ادب و تمدن و سیاست و تاریخ معاصر ایران می باشد.

محتویات این کتاب تحول شعر فارسی در ایران را نشان می دهد - مثلاً این اشعار حمید سبزواری :

ای شده سرو چمن پشت زبالای شما

جرعه نوشان ازل مست ز صهیبای شما

بکدامین صفت امروز به میدان شده اید

که قضا و قدر آمد به تماشای شما

شعله در خصم نهادید و ستایش شنوید

راز موسی است مگر در ید بیضای شما

كسوت سرخ بهربی سرو پا نفوشنند

این قبانی است برازنده بالای شما

رحمتی که دکتر کرمانی در تهیه و چاپ این کتاب کشیده اند ما آن را ارج می نهیم. (حسین کاظمی)

*

دزدی کتاب

A good Book : Buy, Borrow, Beg or Steal.

کتاب خوب را بخرید ، قرض بگیرید ، بطلبید یا بدزدید .

فهرست اسامی نویسندها و مطالب دانش

دوره اول ۱۳۶۴

نویسندها و سرایندها

- احسن ، عبدالشکور ۱ : ۱۵۰
- آخر راهی ۱ : ۱۰۶
- اقبال ملک ، محمد ۱ : ۱۵۰
- اکبر حیدری کاشمیری ۳ : ۱۵۹
- اکرام ، محمد اکرم ۲ : ۶۰
- انصارالله ، محمد ۲ : ۱۰۶
- بچکا ، نیروزی ۲ : ۴
- بخاری ، حافظ الدین ۱ : ۴۰
- جبلیل احمد رضوی ۴ : ۱۳۳
- جرخشی ، یعقوب ۱ : ۱۲
- چیمه ، محمد آخر ۱ : ۴۸
- رانجها ، محمد نذیر ۱ : ۱۲
- روینه ترین ۴ : ۱۸۱
- رئیس نعمانی ۱ : ۳۰ ، ۱۰۲ : ۱۴۵
- رباض ، محمد ۲ : ۷۶
- سعناتی ، علام الدوله ۳ : ۱
- شاد ، حسین کاظمی ۴ : ۱۰۱
- شاکر القادری ۴ : ۹۹
- شفا ، محمد حسین خان ۴ : ۲۰۶
- شمس الدین احمد ۴ : ۱۰۳
- صداقت کنجاهی ، محمد ماد ۲ : ۶۸
- ظفر ، محمد سرفراز ۱ : ۱۰۵

- عابدی ، امیر حسن ١ : ٦٥
 عبادیان ، محمود ٤ : ٤
 غلام نظام الدین ٣ : ١٥٧
 قاسی ، شریف حسین ١ : ٨٨
 کلثوم ابوالبشر ٣ : ١٤٩
 مایل هروی ، نجیب ٣ : ٤ ، ١ : ٦٩
 مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان ٣ : ٧١
 مصطفاً ، مظاہر ٣ : ١٤٨
 معین نظامی ٣ : ١٥٧
 منزوی ، احمد ٢ : ٥٤
 میر میران ، معز الدین محمد حسین اردستانی ٤ : ٤
 نامی ، سلطان محمود ٤ : ١٠٠
 نقوی ، علیرضا ٣ : ٦٠
 نوشافی ، عارف ١ : ١٨١ ، ٢ : ١٨٣ ، ٣ : ١٨٧
 نوشافی ، گوهر ٢ : ١١
 وارت سرهنگی ٤ : ١٦٥
 وکیلی ، بهاء الدین ٤ : ١

چاپ متون

- جمالیه : حورانیه
 حورانیه : جمالیه ١ : ٣٤ - ٣٩
 سرمساع ٢ : ٩ - ١٦
 شرح اسماء الحسنی ١ : ١٥ - ٣٣
 شرح حدیث ارواح المؤمنین ٣ : ٣ - ٢١
 شطرنجیه ٣ : ٢٢ - ٢٩
 طریق ختم احزاب ١ : ٤٠ - ٤١
 فرحة العاملین و فرجة الکاملین ٣ : ٣٠ - ٥٩

میاسہ و مقداد ۴ : ۱ - ۶۸

معرفی متون قدیم و نسخه های خطی

آئینہ حیرت (فارسی شعراء کی دو نایاب اور غیرمطبوعہ تذکرے) ۳ : ۱۵۹

بیاض (یک بیاض نادر خطی) ۱ : ۶۵

تلانہ غسالہ (بنگال کی فارسی، اردو اور عربی تصانیف کی فہرست .. تلانہ غسالہ .. ایک تعارف) ۳ :

۱۴۹

حدیقة هندی (تذکرہ حدیقة هندی) ۲ : ۱۷

ذخیرہ الملوك (ذخیرہ الملوك مؤلفہ میر سید علی همدانی - ایک مطالعہ اور تحقیق) ۲ : ۷۱

زبدۃ الاخبار فی سوانح الاسفار (دریجہ ای بہ شیراز قرن نوزدهم میلادی) ۱ : ۸۸

صد پند لقمان (رضا لائزیری رام بور میں میر علی الکاتب سلطانی ہروی کی تحریریں) ۴ : ۲۷

طور معنی (فارسی شعراء کی دو نایاب اور غیر مطبوعہ تذکرے) ۳ : ۱۵۹

کلیات فائز دھلوی (کلیات فائز دھلوی - تعارف اور انتخاب کلام) ۴ : ۱۳۳

مناجات خواجہ عبدالله انصاری (رضا لائزیری رام بور میں میر علی الکاتب سلطانی کی تحریریں) ۴ : ۲۰۰

مونس المنشاق ۲ : ۵۴

تقد و معرفی کتابهای چاپی جدید

اشکھا و خونها ۲ : ۶۰

باکاروان حلہ ۳ : ۷۱

پاکستان میں فارسی ادب ، جلد چہارم ۴ : ۲۷

الجانب الغریب فی حل مشکلات الشیخ محی الدین ابن عربی ۲ : ۱۶۶

دستور مختصر زبان درسی ۴ : ۲۲۴

رستاخیز ۴ : ۲۲۴

سبع سنابل ۳ : ۱۹۱

سوزو ساز ۴ : ۲۲۳

سیری در گلریز نخشی ۴ : ۲۲۲

شعر فارسی بعد از انقلاب ایران ۴ : ۲۲۵

غاية الامكان في دراية المكان ۱ : ۱۸۳

فارسي ادب بمهد سلاطين تعلق ۳ : ۱۸۳

فارسي اصطلاحات سازی - کتابيات ۳ : ۱۹۴

فهرست مشترک نسخه های خطی فارسي پاکستان (سه جلد اول) ۴ : ۶۹

گل و ببل ۴ : ۲۳۲

مقامات مظہری ۱ : ۱۸۱

مناهج الطالبين و مسائل الصادقين ۴ : ۲۳۱

توريه سلطانيه ۲ : ۱۶۲

هفت فلك ۴ : ۲۲۵

شرح احوال و آثار

غلام حسين ملتانی (غلام حسين شهید ملتانی کا فارسي کلام) ۴ : ۱۸۱

فائز دھلوی (فائز دھلوی : کلیات کا تعارف اور انتخاب کلام) ۴ : ۱۳۳

معین الدین چشتی (شمع ای زندگی و آثار خواجہ اجمیر) ۱ : ۴۸

بکدل چشتی (احوال و آثار فخر الشعراں بکدل چشتی) ۱۱ : ۲

تحقيقات و مباحث ادبی

ایران میں اقبال کی روز افزون مقبولیت ۱ : ۱۵۰

بر صغیر پاک و ہند میں مطالعہ سعدی ۱ : ۱۰۶

سعدی در ادب و دانش چک ۲ : ۴

کشمیر میں فارسي ادب - ایک جائزہ ۴ : ۹۰۳

گاسی چند با کاروان حلہ ۲ : ۷۱

زبانشناسی

فارسي بر قدیم اردو کی اثرات ۲ : ۱۰۶

فارسي زبان اور متربین ۴ : ۱۶۵

شعر فارسي

۱ : ۱۰۲ - ۱۰۵ - ۱۰۴ - ۱۴۵ : ۳ ، ۱۴۸ : ۲ ، ۱۰۵ - ۱۴۵ : ۴

THE IQBAL ACADEMY
PAKISTAN'S QUARTERLY

Iqbal Review

Frontier Thinking
in

- IQBAL STUDIES • SOCIOLOGY
- PHILOSOPHY • HISTORY
- METAPHYSICS • ISLAMIAT
- TRADITION • ARTS
- LITERATURE • MYSTICISM

LOCAL

1. SINGLE COPY
2. SINGLE COPY FOR STUDENTS
3. ANNUAL SUBSCRIPTION

- Rs. 20/-
- Rs. 15/-
- Rs. 60/-

FOREIGN

1. ANNUAL SUBSCRIPTION
2. ANNUAL SUBSCRIPTION FOR STUDENTS
3. ANNUAL SUBSCRIPTION FOR INSTITUTIONS BASED ABROAD

-\$10/-
-\$7/-
-\$15/-

IQBAL ACADEMY, PAKISTAN
116-MCLEOD ROAD, LAHORE, PAKISTAN.

مهم ترین و مدلل ترین مأخذ درباره تأثیر در راج فارسی در پژوهش قاره پاکستان و هند

فرمت ششک

نحوهای خطی فارسی پاکستان

تألیف

احمد منزوی



مرکز تحقیقات ایران و پاکستان

جلد اول: تفسیر، تجوید، دوباره قرآن، ریاضی، ستاره شناسی، علوم غریبیه،
طیبیات، پزشکی، ریکیما، چند دانشی - بها ۱۵۰ روپیه

جلد دوم: منطق، حکمت و فلسفه، ملل و خل، کلام و عقاید - بها ۵۰ روپیه

جلد سوم: عرفان - بها ۱۰۰ روپیه

جلد چهارم: هندوئی، فلسفه علی، پیشہ ها و آداب پیشہ وران

جلد پنجم: نامه زگاری و فرسخواره کتابهای فارسی پیرامون نامه زگاری

و دیبری - بها ۱۰۰ روپیه

از انتشارات

مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان

۱۱- مسجد روڈ، ایصف ۳/۶ - اسلام آباد

DANESH

Quarterly Journal
of the
Cultural Consulate, the Islamic Republic of Iran

Vol. 1 No. 4 Winter 1986

Editor : S. Arif Naushahi.

Honorary Advisor : Dr. S. Ali Raza Naqvi.

Published by:

Cultural Counsellor of the Islamic Republic of Iran
House No. 25, Street No. 27, F-6/2, Islamabad, Pakistan


Printed at Manza Printing Corporation, Rawalpindi.

DANESH

Quarterly Journal
of the
Cultural Consulate, the Islamic Republic of Iran

Vol. 1 No. 4 Winter 1986

A collection of research articles
with background of Persian language
and literature and common cultural heritage
of Iran and Indo-Pak Subcontinent.



Price : Rs. 10